

كُتُبَ الْمُلَّا إِلَيْكَ تُخْرَجُ التَّائِسُونَ لِظُلْمَاتِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

تفسیر ابن حشیر

حافظ عَمَّـاد الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَشِيرٍ

خطيب الهند مولانا محمد جوناگر حمی
مُتَرَجِّمَه

مکتبہ قدوسیہ



تفسیر امین کیش

چند اہم مضامین کی فہرست

۱۲
پارہ نمبر

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>۷۸۱</p> <p>۷۸۲</p> <p>۷۸۳</p> <p>۷۸۴</p> <p>۷۸۵</p> <p>۷۸۶</p> <p>۷۸۹</p> <p>۷۹۰</p> <p>۷۹۰</p> <p>۷۹۱</p> <p>۷۹۲</p> <p>۷۹۶</p> <p>۷۹۸</p> <p>۸۰۰</p> <p>۸۰۲</p> <p>۸۰۳</p> <p>۸۰۳</p> <p>۸۰۸</p> <p>۸۰۹</p> <p>۸۱۰</p> <p>۸۱۱</p> <p>۸۱۲</p> <p>۸۱۳</p> <p>۸۱۴</p> <p>۸۱۵</p> | <ul style="list-style-type: none"> • اللہ عز و جل کا غضب • عرش سے فرش تک • ہر چیز کا واحد مالک وہی ہے • باز پر لازمی ہو گی • وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے • شیطان کے دوست • بہترین دعا • مشرکین کی جہالت کا ایک انداز • بندوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان • توحید کی تائید • مومن اور کافر میں فرق • ہرامت کا گواہ اس کا نبی • کتاب میمین • عہد و پیمان کی حفاظت • کتاب و سنت کے فرمائ بردار • آعوذ کا مقصد • سب سے زیادہ منزلت و رفتہ • صبر و استقامت • اللہ کی عظیم نعمت بعثت نبوی ہے • حلال و حرام صرف اللہ کی طرف سے ہے • دوسروں سے منسوب ہر چیز حرام ہے • جدال انبياء حضرت ابراہيم عليه الصلوة والسلام بدریت کے امام • حکمت سے مراد کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ہے • تصاص اور حصول قصاص • ملائیکہ اور مجاہدین | <ul style="list-style-type: none"> ۷۳۷ ۷۳۹ ۷۵۰ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۸ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۰ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۳ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۹ ۷۸۰ | <ul style="list-style-type: none"> • سرگش و متبرہ بلاک ہوں گے • ستارے اور شیاطین • اللہ تعالیٰ کے خزانے • ابلیس نصین کا انکار • جنت میں کوئی شخص دیکھنا رہے گا • قوم الوٹ کی خرمستیاں • آل ہود کا عبرتناک انجام • اصحاب ایکہ کا المناک انجام • آل شودو کی تباہیاں • نبی اکرم ﷺ کو سلیمان • قرآن عظیم سیع مثانی اور ایک لازوال دولت • انبیاء کی تکذیب عذاب الہی کا سبب ہے • روز یقامت ایک ایک چیز کا سوال ہو گا • رسول اللہ ﷺ کے خلافین کا عبرتناک انجام • یقین کا مفہوم • وحی کیا ہے؟ • چوپائے اور انسان • تقویٰ بہترین زادراہ ہے • سورج چاند کی گردش میں پوشیدہ فوائد • اللہ خلق کل • قرآن حکیم کے ارشادات کو دیرینہ کہنا کفر کی علامت ہے • نمرود کا تذکرہ • مشرکین کی جان کی کا عالم • اللہ ہر چیز پر قادر ہے • دین کی پاسبانی میں بھرت • انسان اور منصب رسالت پر اختلاف |
|--|--|--|--|

**رَبَّمَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرْهُمْ
يَا كُلُوا وَيَتَمَّعُوا وَيُلِّهُمُ الْأَمَلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ
وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ
مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ**

وہ بھی وقت ہو گا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے○ تو انہیں کھاتا نفع اخہاتا اور امیدوں میں غشول ہوتا چھوڑ دے۔ یہ داد بھی جان لیں گے○ کسی بستی کوہ نے ہلاک نہیں کیا مگر کہ اس کے لئے مقرہ نو شد تھا○ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ چھپے رہتا ہے○

بعد از مرگ پیشیانی: ☆☆ (آیت: ۵-۲) کافر اپنے کفر پر عنقریب نادم و پیشان ہوں گے اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی تھنا کریں گے۔ یہ بھی مردوی ہے کہ کفار بر جب جہنم کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ دنیا میں موسم ہوتے یہ بھی ہے کہ ہر کافر اپنی موت کو دیکھ کر اپنے مسلمان ہونے کی تھنا کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہر کافر کی بھی تھنا ہو گی۔ جہنم کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے کہ کاش کہ اب ہم والپس دنیا میں بھیج دیئے جائیں تو نہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹالیں نہ ترک ایمان کریں۔ جہنمی لوگ اور وہ مسلمانوں کو جہنم سے نکلتے دیکھ کر بھی اپنے مسلمان ہونے کی تھنا کریں گے۔ ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ گنہگار مسلمانوں کو جہنم میں مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ روک لے گا تو مشرک ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ جس اللہ کی تم دنیا میں عبادت کرتے رہے اس نے تمہیں آج کیا فائدہ دیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اور ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال لے گا۔ اس وقت کافر تھنا کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی دنیا میں مسلمان ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ مشرکوں کے اس طمعے پر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے آزاد کر دو۔ اخ - طبرانی میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، لا اللہ الا اللہ کے کہنے والوں میں سے بعض لوگ بہبوب اپنے گناہوں کے جہنم میں جائیں گے پس لات وعزی کے پچاری ان سے کہیں گے کہ تمہارے لا اللہ الا اللہ کہنے نے تمہیں کیا نفع دیا؟ تم تو ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جل رہے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ ان سب کو وہاں سے نکال لے گا۔ اور نہر حیات میں غوطہ کرنے والوں ایسا کر دے گا جیسے چاند گہن سے نکلا ہو۔ پھر یہ سب جنت میں جائیں گے۔ وہاں انہیں جہنمی کہا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر کسی نے کہا، کیا آپ نے اسے رسول اللہ ﷺ کی زبانی سنا ہے؟ آپ نے فرمایا، سنو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ مجھ پر قصد اجھوٹ بولنے والا اپنی جگہ جہنم میں بنالے۔ باوجود اس کے میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث خود رسول کریم ﷺ کی زبانی سنی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ مشرک لوگ اہل قبلہ سے کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے۔ پھر تمہیں اسلام نے کیا نفع دیا؟ تم تو ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو، وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے گناہ تھے جن کی پاداش میں ہم پکڑے گئے اخ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے چھکارے کے وقت کفار کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے اور ان کی طرح جہنم سے چھکارا پاتے۔

پھر حضور ﷺ نے اعود بالله من الشیطان الرجیم پڑھ کر شروع سورت سے مُسْلِمِینَ تک تلاوت فرمائی۔ یہی روایت اور سند سے ہے۔ اس میں اَعُوذُ کے بد لے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کا پڑھنا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ان مسلمان گنہگاروں سے مشرکین

کہیں گے کہ تم تو دنیا میں یہ خیال کرتے تھے کہ تم اولیاء اللہ ہو۔ پھر ہمارے ساتھ یہاں کیسے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی اجازت دے گا۔ پس فرشتے اور نبی اور مون شفاعت کریں گے اور اللہ انہیں جہنم سے چھوڑتا جائے گا۔ اس وقت مشرک لوگ کہیں گے کہ کاش کرو بھی مسلمان ہوتے تو شفاعت سے محروم نہ رہتے اور ان کے ساتھ جہنم سے چھوٹ جاتے۔ یہی معنی اس آیت کے ہیں۔ یہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے چہروں پر قدرے سیاہی ہوگی اس وجہ سے انہیں جہنمی کہا جاتا ہو گا۔ پھر یہ دعا کریں گے کہ الہی یہ لقب بھی ہم سے ہٹادے۔ پس انہیں جنت کی ایک نہر میں غسل کرنے کا حکم ہو گا اور وہ نام بھی ان سے دور کر دیا جائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو آگ ان کے گھنٹوں تک پکڑ لے گی اور بعض کو زانوں تک اور بعض کو گرد تک، جیسے جن کے گناہ اور جیسے جن کے اعمال بعض ایک مینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے۔ سب سے لمبی سزا والا وہ ہو گا جہنم میں اتنی مدت رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے یعنی دنیا کے پہلے دن سے دنیا کے آخری دن تک۔ جب ان کے نکالنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس وقت یہود و نصاری اور دوسرے دین والے جہنمی ان اہل توحید سے کہیں گے کہ تم اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے تھے۔ پھر بھی آج ہم اور تم جہنم میں یکساں ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کو خنت غصہ آئے گا کہ ان کی اور کسی بات پر اتنا غصہ نہ آیا تھا۔ پھر ان موحدوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی نہر کے پاس لا یا جائے گا۔ یہ ہے فرمان رُبِّنَا يَوْدُ أَنْ میں۔ پھر بطور داث کے فرماتا ہے کہ انہیں کھاتے پیتے اور مزے کرتے چھوڑ دے آخرون ان کا مٹھانا جہنم ہے۔ تم کھاپی لاؤ تمہارا مجرم ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ انہیں ان کی دور دراز کی خواہیں تو بہ کرنے سے اللہ کی طرف بھجنے سے غافل رکھیں گی۔ عقریب حقیقت کمل جائے گی۔

اتمام جنت کے بعد: ☆☆ ہم کسی بستی کو دلیلیں پہنچانے اور ان کا مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہلاک نہیں کرتے۔ ہاں جب وقت مقررہ آ جاتا ہے، پھر تقدیم و تاخیر ناممکن ہے۔ اس میں اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ وہ شرک سے الخاد سے پیغمبر رب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں ورنہ تحقیق ہلاک ہو جائیں گے اور اپنے وقت پر تباہ ہو جائیں گے۔

وَقَالُوا يَا يَاهَا إِذَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ
لَوْمًا تَأْتَيْنَا بِالْمَلِكِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ
نُزِّلُ الْمَلِكِكَةِ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ
نَرَّلَنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ

کہنے لگے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے یقیناً تو تو کوئی دیوانہ ہے ॥ اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا ۵۰۶ ۰۹۰ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیئے گئے نہیں ہو سکتے ॥ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ॥

سرکش و متکبر ہلاک ہوں گے: ☆☆ (آیت: ۹-۶) کافروں کا فرقہ ان کی سرکشی، تکبیر اور ضد کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ بطور مذاق اور ہنسی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے وہ شخص جو اس بات کا مدعا ہے کہ تجوہ پر قرآن، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو سراسر پاگل ہے کہ اپنی تابعداری کی طرف ہمیں بلارہا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ دیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا جو تیری سچائی ہم سے بیان کریں۔ فرعون نے بھی یہی کہا تھا کہ فَلَوْلَا الْقَيْمَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ لَّا يَسْمَعُنَّ كہنگ کیوں نہیں ڈالے گئے؟ اس کے ساتھ مل کر فرشتے کیوں نہیں آئے؟ رب کی ملاقات

کے مکروں نے آواز اٹھائی کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کئے جاتے؟ یا یہی ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیتے۔ دراصل یہ گھمند میں آگئے اور بہت ہی سرکش ہو گئے۔ فرشتوں کو دیکھ لینے کا دن جب آجائے گا، اس دن ان گنہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہو گی نہیں بھی فرمان ہے کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں یعنی رسالت یا عذاب کے ساتھ۔ اس وقت پھر کافروں کو مہلت نہیں ملے گی۔ اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے ہی اتارتے ہیں اور اس کی حفاظت کے ذمے دار بھی ہم ہی ہیں، ہمیشہ تغیر و تبدل سے بچا رہے گا بعض کہتے ہیں کہ لہ کی ضمیر کا مرتع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی قرآن اللہ ہی کا نازل کیا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ وہی ہے جیسے فرمان ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تَحْقِي لَوْگُوں کی ایذا ارسانی سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ لیکن پہلا معنی اولیٰ ہے اور عبارت کی ظاہر روائی بھی اسی کو ترجیح دیتی ہے۔

۱۵

**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ هُنَّ وَمَا يَاتَيْهُمْ
مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ هُنَّ كَذَلِكَ نَسْلَكُهُ فِي
قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ هُنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ
الْأَوَّلِينَ هُنَّ وَلَوْ قَاتَنَاهُ عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلَّوْا فِيهِ
يَعْرُجُونَ هُنَّ أَقَالُوا إِنَّمَا سَكَرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ حَرْبٌ قَوْمٌ
مَسْحُورُونَ هُنَّ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَّنَا
لِلنَّظَرِينَ هُنَّ**

ہم نے اگلی ایتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجیے ॥ لیکن جو رسول آیا، اسی کا انہوں نے مذاق اڑایا ॥ گنہگاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رپا دیا کرتے ہیں ॥ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے ॥ اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے کی لگ جائیں۔ جب بھی یہیں کہیں کے کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا ہے ॥ یقیناً ہم نے آسمان میں برق بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لئے اسے زینت والا کیا ہے ॥

(آیت: ۱۰-۱۳) اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دیتا ہے کہ جس طرح لوگ آپ کو جھٹالا رہے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے کے نبیوں کو بھی وہ جھٹالا چکے ہیں۔ ہر امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوئی ہے اور اسے مذاق میں اڑایا گیا ہے۔ ضدی اور متکبر گروہ کے دلوں میں بہبیں ان کے حد سے بڑھنے ہوئے گناہوں کے تکذیب رسول سُمودی جاتی ہے، یہاں مجرموں سے مراد مشرکین ہیں۔ وہ حق کو قبول کرتے ہی نہیں، نہ کریں، اگلوں کی عادت ان کے سامنے ہے۔ جس طرح وہ ہلاک اور بر باد ہوئے اور ان کے انبیاء، نجات پا گئے۔ اور ایمان دار عافیت حاصل کر گئے۔ وہی نتیجہ یہ بھی یاد رکھیں، دنیا و آخرت کی بھلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں اور دونوں جہان کی رسولی نبی کی مخالفت میں ہے۔

کافر ہٹ دھرم ہوتے ہیں: ☆☆ (آیت: ۱۳-۱۵) ان کی سرکشی، ضدی ہٹ دھرمی، خود بینی اور باطل پرستی کی تو یہ کیفیت ہے کہ بالفرض اگر ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں وہاں چڑھا دیا جائے تو بھی یہ حق کو حق کہہ کر نہ دین گے بلکہ اس وقت بھی ہاں کا میں

گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ آنکھیں بہ کادی گئی ہیں، جادو کر دیا گیا ہے، نگاہ بھیں لی گئی ہے، دھوکہ، ور بامہ، یوقوف بنا یا جارہا ہے۔ ستارے اور شیاطین: جست☆ (آیت: ۱۶) اس بلند آسمان کا جو سبھرے رہنے والے اور چلنے پھرنے والے ستاروں سے زینت دار بنے پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جو بھی اسے غور و فکر سے دیکھئے وہ بجا بسات قدرت اور نشانات عبرت اپنے لئے بہت سے پاسکتا ہے۔ بروج سے مراد یہاں پر ستارے ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے تَبَرَّكَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَااءِ بُرُوجًا كَثِيرًا بعض کا قول ہے کہ مراد سورج چاند کی منزلیں ہیں۔ عظیمہ کہتے ہیں وہ جگہیں جہاں چوکی پھرے ہیں۔

**وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ رَّجِيمٍ لَّهُ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَ
السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ حِجْرٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا
وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٌ
وَجَعَلَنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرْزَقِينَ**

اور اسے ہر مرد و دشیطان سے محفوظ رکھا ہے ॥ باہ جو سننے کو چڑا چاہے اس کے چھپے کھلا شعلہ لگتا ہے ॥ اور زمین کو نہ پھیلا دیا بے اور اس پر پہاڑ لرا کھے یہی اور اس میں ہم نے ہر چیز بالند اداہا گاہی ہے ॥ اور اسی میں ہم نے تمہاری روزی یا بادی ہیں اور تمہیں تم روزی دیئے والے نہیں ہو۔

(آیت: ۲۰-۲۱) اور جہاں سے رکش شیطانوں پر مار پڑتی ہے کہ وہ بلند و بالا فرشتوں کی گفتگو نہیں سکیں۔ جو آگے بڑھتا ہے شعلہ اس کے جلانے کو لپتا ہے۔ کبھی تو یہ نیچے والے کے کان میں بات ڈالنے سے پہلے ہی اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے جیسے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں صراحتاً مردی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کی بابت فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عازمی کے ساتھ اپنے پر جھکا لیتے ہیں جیسے زنجیر پھر پر۔ پھر جب ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب کا کیا ارشاد ہوا؟ وہ کہتے ہیں جو بھی فرمایا تھا ہے اور وہی بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ فرشتوں کی با توں کو چوری چوری سننے کے لئے جنات اور پر کی طرف چڑھتے ہیں اور اس طرح ایک پر ایک ہوتا ہے۔ راوی حدیث حضرت صفوان نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس طرح بتایا کہ داشتے ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے ایک کو ایک پر رکھ لی۔ شعلہ اس سننے والے کا کام کبھی تو اس سے پہلے ہی ختم کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے کان میں کہہ دے اسی وقت وہ جل جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اسے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو اور اسی طرح مسلسل پہنچا دے اور وہ بات زمین تک آ جائے اور جادو و گریا کا حصہ کے کان اس سے آشنا ہو جائیں۔ پھر تو وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلا دیتا ہے۔ جب اس کی وہ ایک بات جو آسمان سے اسے اتفاق پہنچ گئی تھی، صحیح تھی ہے تو لوگوں میں اس کی دانشمندی کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے فلاں دن یہ کہا تھا۔ بالکل حق نکلا۔

پھر اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرماتا ہے کہ اسی نے اسے پیدا کیا، پھیلایا، اس میں پہاڑ بنائے، جنگل اور میدان قائم کئے، کھیت اور باغات اور تمام چیزیں اندازے مناسبت اور موزونیت کے ساتھ ہر ایک موسم ہر ایک زمین، ہر ایک ملک کے لحاظ سے بالکل ٹھیک پیدا کیں جو بازار کی زینت اور لوگوں کے لیے خوبگوار ہیں۔ زمین میں قسم قسم کی معیشت اس نے پیدا کر دی اور انہیں بھی پیدا کیا جن کے روزی رسان تم نہیں ہو۔ یعنی چوپائے اور جانور لوٹنی غلام وغیرہ۔ پس قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کے اسباب، قسم قسم کی راحت، طرح کے آرام اس نے تمہارے لئے مہیا کر دیئے۔ کماں کے طریقے تمہیں سکھائے۔ جانوروں کو تمہارے زیر دست کر دیتا کہ کھاؤ بھی سواریاں بھی کرو لوٹنی غلام دیکھ کر راحت، آرام حاصل

کرو۔ اگلی روز یاں بھی کچھ تمہارے ذمہ نہیں بلکہ ان کا رزاق بھی رب عالم پروردگار کل ہے۔ نفع تم اٹھاؤ۔ روزی وہ پہنچائے۔ فسجانہ عظم شانہ۔

**وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنَهُ وَمَا نَنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ
مَعْلُومٌ ۝ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَآسَقْيَنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِينَنَ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ بِنُحْجٍ
وَنُمِيَّشُ وَنَحْنُ بِالْوَرِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ
مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝**

۱۶

بختی بھی چیزوں ہیں سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں ہم ہر چیز کو اس کے مقربہ انداز سے اتارتے ہیں ۝ ہم بوجھل کرنے والی ہوا میں چلا کر بھر آسان سے پانی برسا کر تھیں وہ پلاتے ہیں تم کچھ اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو ۝ ہم ہی جلتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالا خروارت ہیں۔ تم میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے بڑھنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں ۝ تیرارت سب لوگوں کو مجھ کرے گا یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا بڑے علم والا ہے ۝

اللہ تعالیٰ کے خزانے: ☆☆ (آیت: ۲۱-۲۵) تمام چیزوں کا تہماں لکھ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر کام اس پر آسان ہے۔ ہر قسم کی چیزوں کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں۔ جتنا جب اور جہاں چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ اپنی حکمتوں کا عالم وہی ہے۔ بندوں کی مصلحتوں سے بھی واقف وہی ہے۔ شخص اس کی مہربانی ہے ورنہ کون ہے جو اس پر جرجر کر سکے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر سال باش برابر ہی برستی ہے۔ ہاں قشیم اللہ کے ہاتھ ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ حکم بن عینیہ سے بھی یہی قول مردی ہے کہتے ہیں کہ باش کے ساتھ اس قدر فرشتے اترتے ہیں جن کی گفتگی کل انسانوں اور جنات سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایک قطرے کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ کہاں برسا اور اس سے کیا اگا۔ بزار میں ہے کہ اللہ کے پاس کے خزانے کیا ہیں؟ صرف کلام ہے۔ جب کہا ہو جا ہو گیا۔ اس کا ایک راوی قوی نہیں۔ ہوا چلا کر ہم بادلوں کو پانی سے بھول کر دیتے ہیں، اس میں سے پانی برنسے لگتا ہے۔ یہی ہوا میں چل کر درختوں کو باردار کر دیتی ہیں کہ پتے اور کوٹیں پھوٹنے لگتی ہیں، اس وصف کو بھی خیال میں رکھئے کہ یہاں جمع کا صیغہ لائے ہیں اور رتع عقیمه میں وصف وحدت کے ساتھ کیا ہے تاکہ کثرت سے نتیجہ برآمد ہو۔ بارداری کم از کم دو چیزوں کے بغیر ناممکن ہے۔ ہوا چلتی ہے وہ آسان سے پانی انھاتی ہے اور بادلوں کو پر کر دیتی ہے۔ ایک ہوا ہوتی ہے جوز میں میں پیداوار کی قوت پیدا کرتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو بادلوں کو ادھرا دھر سے انھاتی ہے۔ ایک ہوا ہوتی ہے جوانہیں جمع کر کے تہہ بتہہ کر دیتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جوانہیں پانی سے بھول کر دیتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے پھل دار ہونے کے قابل کر دیتی ہے۔

ابن حجریر میں بہمند ضعیف ایک حدیث مردی ہے کہ جنوبی ہوا جلتی ہے، اس میں لوگوں کے منافع ہیں اور اسی کا ذکر کتاب اللہ میں لئے مہیا کر دیئے۔ کمائی کے طریقے تھیں سکھائے۔ جانوروں کو تمہارے زیر دست کر دیا تاکہ کھاؤ بھی سوار یاں بھی کرو۔ لونڈی غلام دیئے کہ راحت و آرام حاصل کرو۔ ان کی روزیاں بھی کچھ تمہارے ذمہ نہیں بلکہ ان کا رزاق بھی رب عالم پروردگار کل ہے۔ نفع تم اٹھاؤ۔ روزی وہ پہنچائے۔ فسجانہ عظم شانہ۔

ابن جریر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ ایک بہت ہی خوش شکل عورت نماز میں آیا کرتی تھی تو بعض مسلمان اس خیال سے کاس پر زنگاہ نہ پڑے آگے بڑھ جاتے تھے اور بعض ان کے خلاف اور پیچھے ہٹ آتے تھے اور بجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں نتلے سے دیکھتے تھے۔ پس یہ آیت اتری لیکن اس روایت میں سخت نکارت ہے۔ عبد الرزاق میں ابو الجوزا کا قول اس آیت کے بارے میں ذکر مردی ہے کہ نماز کی صفوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے۔ یہ صرف ان کا قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ذکر نہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی زیادہ مشاہب ہے۔ واللہ عالم۔ محمد بن ”کعب کے سامنے عون بن عبد اللہ جب یہ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں بلکہ اگلوں سے مراد وہ ہیں جو مرچ کچلے اور پکھلوں سے مراد ادب پیدا شدہ اور پیدا ہونے والے ہیں۔ تیراب سب کو جمع کرے گا۔ وہ حکمت علم والا ہے۔ یہ سن کر حضرت عون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ آپ کو توفیق اور جزاے خیر دے۔

**وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ هِنْ حَمَّا مَسْنُونٌ ۝
وَالْجَاهَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلٍ هِنْ نَّارُ السَّمُومِ ۝**

یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی ○ پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ۱۰

خشک مٹی : ☆☆ (آیت: ۲۶-۲۷) صلصال سے مراد خشک مٹی ہے۔ اسی جیسی آیت خلق الانسان من صلصال کالفخار وَخَلَقَ الْجَاهَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ ہے یہ بھی مردی ہے کہ بودار مٹی کو جما کہتے ہیں چکنی مٹی کو مسنون کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمثی۔ اوروں سے مردی ہے بودار مٹی اور گندی ہوئی مٹی۔ انسان سے پہلے ہم نے جنات کو جلا دیئے والی آگ سے بنایا ہے۔ سوم کہتے ہیں آگ کی گرمی کو اور حرور کہتے ہیں دن کی گرمی کو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس گرمی کی لوئیں اس گرمی کا ستر ہواں حصہ ہیں۔ جس سے جن پیدا کئے گئے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جن آگ کے شعلے سے بنائے گئے ہیں یعنی آگ سے بہت بہتر، عمر کہتے ہیں سورج کی آگ سے۔ صحیح میں وارد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کئے گئے اور جن شعلے والی آگ سے اور آدم علیہ السلام اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت و شرافت اور ان کے عشر کی پاکیزگی اور طہارت کا بیان ہے۔

**وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكِ كَيْتَ أَنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ
مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي
فَقَعُوا لَهُ سُجَّدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلِكُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝
إِلَّا بُلْدِيسٌ طَابَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السُّجَّدِينَ ۝ قَالَ لَمْ
يَا بُلْدِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السُّجَّدِينَ ۝ قَالَ لَمْ
أَكُنْ لَّا سَجَدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّا مَسْنُونٍ ۝**

جب کہ تیرے پر درگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو خیر کی ہوئی مکلفتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں ○ توجہ کہ میں اسے پورا ہانا پکول اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لئے بھجے میں گرپندا ○ چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے بھجہ کر لیا ○ مگر ابلیس کہ اس نے بھجہ

کرنے والوں میں شویت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ فرمایا اے الجیں، تجھے کیا ہوا کہ تو بحمدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو بحمدہ کروں جسے تو نے کامل اور سڑی ہوئی کھلنا تھا ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

ابنیں لعین کا انکار: ☆☆ (آیت: ۳۳-۲۸) اللہ تعالیٰ یہاں فرمرا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی پیدائش کا ذکر اس نے فرشتوں میں کیا اور پیدائش کے بعد بحمدہ کرایا۔ اس حکم کو سب نے قوانین یا لیکن ابنیں لعین نے انکار کر دیا اور کفر و حسد انکار و تکبر، غزو و غرور کیا۔ صاف کہا کہ میں آگ کا ہنا یا ہوا یہ خاک کا ہنا یا ہوا۔ میں جو اس سے بہتر ہوں، اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اگرچہ تو نے اسے مجھ پر بزرگی دی لیکن میں اپنیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابن جریر نے یہاں پر ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے۔ کہ اب ایسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ تم اسے بحمدہ کرنا۔ انہوں نے کہا، ہم ایمان کریں گے۔ چنانچہ اسی وقت ان کو آگ نے جلا دیا۔ پھر اور فرشتے پیدا کئے گئے۔ ان سے بھی بھی کہا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے سا اور تسلیم کیا۔ مگر ابنیں جو پہلے کے منکروں میں سے تھا، اپنے انکار پر جمار با لیکن اس کا ثبوت ان سے نہیں یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلامی روایت ہے۔ واللہ عالم۔

قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝

فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگا ہے۔ اور تجھ پر یہی پچھکار ہے قیامت کے دن تک۔ کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کی ڈھیل دے کے لوگ دوبارہ اخراج کرے کئے جاؤں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں ہے جنہیں مہلت ملے۔ روز مقرر کے وقت تک کی

ابدی لعنت: ☆☆ (آیت: ۳۸-۳۳) پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا ارادہ کیا جو نہ مٹالا جائے کہ تو اس بہترین اور اعلیٰ جماعت سے دور ہو جا۔ تو پھنکا رہا ہے۔ قیامت تک تجھ پر ابدی اور دو ای لعنت بر سار کرے گی۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کی صورت بدلتی اور اس نے نوح خوائی شروع کی دنیا میں تمام نوچے اسی ابتداء سے ہیں۔ مردود و مطرود ہو کر پھر آتش حسد سے جلتا ہوا آرزو کرتا ہے کہ قیامت تک کی اسے ڈھیل دی جائے۔ اسی کو یوم البعث کہا گیا ہے۔ پس اس کی یہ درخواست منظوری کی گئی اور مہلت مل گئی۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ ۝ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطُ ۝ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٍ ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ ۝ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِينَ ۝

کہنے لگا کہ اے میرے رب پوچکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے مجھے بھی تم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے مزین کروں گا اور ان سب کو بھی بہکاؤں گا۔ تیرے ان بندوں کے ہونختب کرنے لئے گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہاں بھی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی را ہے۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری بیرونی کریں۔

اللیس کے سیاہ کارنا مے: ☆☆ (آیت: ۳۹-۴۲) ایلیس کی سرکشی بیان ہو رہی ہے کہ اس نے اللہ کے گمراہ کرنے کی قسم کھا کر کھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی اولاد آدم کے لئے زمین میں تیری نافرمانیوں کو خوب زینت دار کر کے دکھاؤں گا۔ اور انہیں رغبت دلا دلا کرنا فرمانیوں میں مثلاً کروں گا۔ جہاں تک ہو سکے گا، کوشش کروں گا کہ سب کو ہی بہکاروں۔ لیکن ہاں تیرے خاص بندے میرے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ ایک اور آیت میں بھی ہے کہ گوئے اسے مجھ پر برتری دی ہے لیکن اب میں بھی اس کی اولاد کے پیچھے پڑ جاؤں گا چاہے کچھ تھوڑے سے چھوٹ جائیں باقی سب کو ہی لے ڈبوں گا۔ اس پر جواب ملکتم سب کا لوٹنا تو میری ہی طرف ہے۔ اعمال کا بدله میں ضرور دوں گا، نیک کو نیک بد کو بد۔ جیسے فرمان ہے کہ تیرارب تاک میں ہے۔ غرض لوٹنا اور لوٹنے کا راستہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ علی کی ایک قرات علی بھی ہے۔ جسے آیت و آئہ فی اُمُّ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعْلَىٰ حَكِيمٌ میں ہے یعنی بلند لیکن پہلی قرات مشہور ہے۔

جن بندوں کو میں نے ہدایت پر لگادیا ہے ان پر تیرا کوئی زور نہیں ہاں تیر ازور تیرے تابع داروں پر ہے۔ یہ استثناء مقطع ہے۔ اب جو یہیں میں ہے کہ بستیوں سے باہر نہیں کی مسجدیں ہوتی تھیں۔ جب وہ اپنے رب سے کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتے تو وہاں جا کر جو نماز مقدار میں ہوتی ادا کر کے سوال کرتے۔ ایک دن ایک نبی کے اور اس کے قبلے کے درمیان شیطان بیٹھ گیا۔ اس نبی نے تین بار کھا اعود بالله من الشیطان الرجیم۔ شیطان نے کہا، اے نبی اللہ آخراً پ میرے داؤں سے کیسے فتح جاتے ہیں؟ نبی نے کہا، تو بتا کہ تو نبی آدم پر کس داؤ سے غالب آ جاتا ہے؟ آ خرمعبادہ ہوا کہ ہر ایک صحیح چیز دوسرے کو بتا دے تو نبی اللہ نے کہا۔ سن اللہ کا فرمان ہے کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں۔ صرف ان پر جو خود گمراہ ہوں اور تیری ماحصلی کریں۔ اس دشمن زب نے کہا یہ آپ نے کیا فرمایا۔ اسے تو میں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے جانتا ہوں۔ نبی نے کہا اور سن اللہ کا فرمان ہے کہ جب شیطانی حرکت ہو تو اللہ سے پناہ طلب کر۔ وہ سننے جانے والا ہے۔ واللہ تیری آہست پاتے ہی میں اللہ سے پناہ چاہ لیتا ہوں۔ اس نے کہا ہج ہے۔ اسی سے آپ میرے پھندے میں نہیں پھنتے۔ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اب تو بتا کہ تو ابن آدم پر کیسے غالب آ جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسے غصے اور خواہش کے وقت دبوچ لیتا ہوں۔ پھر فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی ایلیس کی پیروی کرے۔ وہ جھنپی ہے۔ یہی فرمان قرآن سے کفر کرنے والوں کی نسبت ہے۔

وَلَقَّ جَهَنَّمَ لِمَوْعِدِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴿١﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ

مِنْهُمْ جُرْحٌ مَقْسُومٌ ﴿٢﴾

غ

یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ۰ جس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لئے ان کا ایک حصہ ہا ہوا ہے ۰

(آیت: ۴۲-۴۳) پھر ارشاد ہوا کہ جہنم کے کئی ایک دروازے ہیں۔ ہر دروازے سے جانے والا ایلیس گروہ مقرر ہے۔ اپنے اعمال کے مطابق ان کے لئے دروازے تقسیم شدہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا، جہنم کے دروازے اسے طرح ہیں۔ یعنی ایک پر ایک۔ اور وہ سات ہیں۔ ایک کے بعد ایک کر کے ساتوں دروازے پر ہو جائیں گے۔ عکرمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سات طبقے ہیں۔ ابن جریر سات دروازوں کے یہ نام بتلاتے ہیں:۔۔۔ جہنم، نظری، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ باعتبار اعمال ان کی منزلیں ہیں۔۔۔ خحاک کہتے ہیں مثلاً ایک دروازہ یہود کا، ایک نصاریٰ کا، ایک صابیوں کا، ایک مجوہیوں کا، ایک مشرکوں کا، ایک منافقوں کا، ایک اہل توحید کا لیکن توحید والوں کو چھٹکارے کی امید ہے باقی سب نا امید ہو گئے ہیں۔ ترمذی میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، جہنم کے سات دروازے ہیں۔ جن

میں سے ایک ان کے لئے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور ﷺ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعض دوزخیوں کے ٹھنڈوں تک آگ ہوگی۔ بعض کی کرتک بخش کی گردنوں تک غرض گناہوں کی مقدار کے حباب سے۔

اَنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَّعِيُونَ هُنَّ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اِمْنِينَ ۝

پڑھیز کار لوگ جتنی باغوں میں اور چشمیوں میں ہوں گے ۰ سلامتی اور امن کے ساتھ یہاں آ جاؤ ۰

جنت میں کوئی بعض و کینہ نہ رہے گا: ☆☆ (آیت: ۳۶-۳۵) دوزخیوں کا ذکر کر کے اب جنتیوں کا ذکر ہے کہ وہ باغات نہروں اور چشمیوں میں ہوں گے۔ ان کو بشارت سنائی جائے گی کہ اب تم ہر آفت سے نجگانے ہوڑ، خوف اور گھبراہٹ سے مطمئن ہو گے۔ نعمتوں کے زوال کا ذرا نہ یہاں سے نکالے جانے کا خطرہ نہ فناز کی۔ اہل جنت کے دلوں میں گودنیوی رنجشیں باقی رہ گئی ہوں مگر جنت میں جاتے ہی ایک دمرے سے مل کر تمام گلے شکوئے ختم ہو جائیں گے۔

وَتَرَعَّتَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ إِخْرَانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقْبِلِينَ ۝ لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصْبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نَبِيٌّ عَبَادِيٌّ أَنِّي آنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابَهُ هُوَ

الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝

ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دمرے کے آمنے سامنے شاہی تھنوں پر بیٹھے ہوں گے ۰ نہ توہاں انہیں کوئی تکلیف چھوکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکال دیئے جائیں گے ۰ میرے بندوں کو خبر کر دے کہ میں بہت ہی بیٹھنے والا اور بڑا ہی مہرباں ہوں ۰ اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت درد کھوائے ہیں ۰

(آیت: ۴۰-۴۷) حضرت ابوالماہہ فرماتے ہیں، جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سینے بے کینہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ مرفوع حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مومن جہنم سے نجات پا کر جنت دوزخ کے درمیان کے پل پر روک لئے جائیں گے۔ جو ناقاً قیاں اور ظلم آپس میں تھے، ان کا ادله بدله ہو جائے گا اور پاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔^① اشتہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی اجازت مانگی اس وقت آپ کے پاس حضرت طلحہ کے صاحزادے بیٹھے تھے تو آپ نے کچھ دریکے بعد اسے اندر بلایا۔ اس نے کہا کہ شاید ان کی وجہ سے مجھے آپ نے دیر میں اجازت دی؟ آپ نے فرمایا تھا۔ کہا پھر تو اگر آپ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحزادے ہوں تو بھی آپ مجھے اسی طرح روک دیں؟ آپ نے فرمایا تھا۔ شک مجھے تو اللہ سے امید ہے کہ میں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی شان میں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ خفگی تھی، ہم نے دور کر دی، بھائی بھائی ہو کر آمنے سامنے تخت شاہی پر جلوہ فرمایا ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عمران بن طلحہ اصحاب حمل سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں سرجا کہا اور فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں اور تھارے والدان میں سے ہیں جن کے دلوں کے غصے اللہ دور کر کے بھائی بھائی ہنا کہ جنت کے تھنوں پر آمنے سامنے بٹھائے گا۔

ایک اور روایت ہے کہ یہ سن کرفش کے کونے پر بیٹھے ہوئے دو شخصوں نے کہا، اللہ کا عدل اس سے بہت بڑھا ہوا ہے کہ جنہیں

آپ قتل کریں، ان کے بھائی بن جائیں؟ آپ نے غصے سے فرمایا، اگر اس آیت سے مراد میرے اور طلحہ جیسے لوگ نہیں تو اور کون ہوں گے؟ اور روایت میں ہے کہ قیلہ ہمان کے ایک شخص نے یہ کہا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھمکی اور بلند آواز سے یہ جواب دیا تھا کہ محل ہل گیا۔ اور روایت میں ہے کہ کہنے والے کا نام حارث اور تھا اور اس کی اس بات پر آپ نے غصے ہو کر جو چیز آپ کے ہاتھ میں تھی وہ اس کے سر پر مار کر یہ فرمایا تھا۔ ابن جرموز جو حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل تھا، جب دربار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا تو آپ نے بڑی دیر بعد اسے داغلے کی اجازت دی۔ اس نے آ کر حضرت زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بلوائی کہہ کر برائی سے یاد کیا تو آپ نے فرمایا، تیرے منہ میں مٹی۔ میں اور طلحہ اور زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان شاء اللہ ان لوگوں میں ہیں جن کی بابت اللہ کا یہ فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم بدریوں کی بابت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

کیش کہتے ہیں، میں ابو جعفر محمد بن علی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے دوست ہیں اور مجھ سے مصالحت رکھنے والے آپ سے مصالحت رکھنے والے ہیں، میرے دشمن آپ کے دشمن ہیں اور مجھ سے لڑائی رکھنے والے آپ سے لڑائی رکھنے والے ہیں۔ واللہ میں ابو بکر اور عمر سے بری ہوں۔ اس وقت حضرت ابو جعفر نے فرمایا، اگر میں ایسا کروں تو یقیناً مجھ سے بڑھ کر گراہ کوئی نہیں ناممکن کہ میں اس وقت ہدایت پر قائم رہ سکوں۔ ان دونوں بزرگوں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اے کیش جمعت رکھ۔ اگر اس میں تجھے کچھ گناہ ہو تو میری گردن پر۔ پھر آپ نے اسی آیت کے آخری حصہ کی تلاوت فرمائی۔ اور فرمایا کہ یہ ان دشمنوں کے بارے میں ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعد بن زید اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ آئندے سامنے ہوں گے تاکہ کسی کی طرف کسی کی پیشہ نہ رہے۔ حضور ﷺ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک جمع میں آکر اسے تلاوت فرمایا، یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں انہیں کوئی مشقت تکلیف اور ایذا نہ ہوگی۔

صحیحین میں ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنادوں جس میں نہ شور و غل ہے نہ تکلیف و مصیبت۔ یہ جختی جنت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ حدیث میں ہے، ان سے فرمایا جائے گا کہ اے جنتیو تم ہمیشہ تندrstت رہو گے۔ کبھی یہاں نہ پڑو گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے۔ کبھی بوڑھے نہ بنو گے۔ اور ہمیشہ یہیں رہو گے، کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔ اور آیت میں ہے وہ تبدیلی مکان کی خواہش ہی نہ کریں گے نہ ان کی جگہ ان سے چھنے گی۔ اے نبی ﷺ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ اور میرے عذاب بھی نہایت سخت ہیں۔ اسی جسمی آیت اور بھی گزر چکی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مومن کو امید کے ساتھ ڈر بھی رکھنا چاہئے۔

حضور ﷺ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس آتے ہیں اور انہیں ہستا ہوا دیکھ کر فرماتے ہیں، جنت دوزخ کی یاد کرو۔ اس وقت یہ آیتیں اتریں۔ یہ مرسل حدیث ابن ابی حاتم میں ہے۔ آپ بنو شیبہ کے دروازے سے صحابہ کے پاس آ کر کہتے ہیں۔ میں تو تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کرو اپس مڑ گئے اور حطیم کے پاس سے ہی التے پاؤں پھر ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ ابھی میں جاہی رہا تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جناب باری ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے بندوں کو نا امید کر رہا ہے؟ انہیں میرے غفور و رحیم ہونے کی اور میرے عذابوں کے المناک ہونے کی خبر دے دے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر بندے اللہ تعالیٰ کی معافی کو معلوم کر لیں تو حرام سے پچا چھوڑ دیں اور اگر اللہ کے عذاب کو معلوم کر لیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔

وَنِسْئُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ لَهُ أَذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
 قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ لَهُ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ
 بِغُلْمَمِ عَلِيِّمِ لَهُ قَالَ أَبَشَّرْتُمْنِي عَلَى أَنْ مَسَنِي الْكَبَرُ فِيمَا
 تُبَشِّرُونَ لَهُ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الظَّنِطِينَ لَهُ
 قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ لَهُ قَالَ
 فَمَا خَطَبْكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ لَهُ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
 مُّجْرِمِينَ لَهُ

انہیں ابراہیم کے مہماں کا بھی حال سادے ۰ کہ جب انہوں نے اس کے پاس آ کر سلام کیا تو اس نے کہا ہم کو تم سے ذرگتا ہے ۰ انہوں نے کہا ہم سے ذرگتا ہے ۰ انہوں نے کہا اس بڑھاپے کے دیوبچے لینے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ ۰ یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل چیز تجھے لا تقدیں کہنا امید لوگوں میں شال ہو جا ۰ کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گراہ اور بیکھرے لوگ ہی ہوتے ہیں ۰ پوچھا کہ اے اللہ کے سیجھے ہوئے فرشتوں تھے ایسا کیا اہم کام ہے؟ ۰ انہوں نے جواب دیا کہ ہم گھنگھار لوگوں کی طرف بھیج گئے ہیں ۰

فرشتہ بصورت انسان: ☆☆ (آیت: ۵۶-۵۷) لفظ ضیف واحد اور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے۔ جیسے زور اور سفر۔ یہ فرشتہ تھے جو بصورت انسان سلام کر کے حضرت ظلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ آپ نے پھر اکاٹ کر اس کا گوشت بھون کر ان مہماں کے سامنے لارکھا۔ جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو ڈر گئے اور کہا کہ ہمیں تو آپ سے ذرگنے لگا۔ فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ذر نہیں۔ پھر حضرت احراق علیہ السلام کے ہونے کی بشارت سنائی۔ جیسے کہ سورہ حود میں ہے۔ تو آپ نے اپنے اور اپنی بیوی صاحبہ کے بڑھاپے کو سامنے رکھ کر اپنا تجھب دور کرنے اور وعدے کو ثابت کرنے کے لئے پوچھا کہ کیا اس حالت میں ہمارے ہاں بچ ہو گا؟۔ فرشتوں نے دوبارہ زور دار الفاظ میں وعدے کو دہرا یا اور نا امیدی سے دور رہنے کی تعلیم کی تو آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ میں مایوس نہیں ہوں۔ ایمان رکھتا ہوں کہ میرا رب اس سے بھی بڑی باتوں پر قدرت کامل رکھتا ہے۔

(آیت: ۵۸-۵۹) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ڈرخوف جاتا رہا بلکہ بشارت بھی مل گئی تو اب فرشتوں سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی۔

إِلَّا إِلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمْنَجُوْهُمْ أَجْمَعِينَ لَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا لَهُ إِنَّهَا
 لِمِنَ الْغَبِرِيْنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ إِلَ لُوْطٍ الْمُرْسَلُونَ لَهُ قَالَ إِنَّكُمْ
 قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ لَهُ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ
 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ لَهُ فَأَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنْ

**اللَّيْلَ وَاتِّبَعَ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمِنُونَ هُوَ وَقَضَيْنَا لِيَهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَبَدَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ
مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ**

مگر خاندان لوٹ کر ہم ان سب کو تو ضرور بچائیں گے○ بجز لوٹ کی یہوی کے، ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے○ جب بھیج ہوئے فرشتے آں لوٹ کے پاس پہنچے○ تو لوٹ نے کہا تم لوگ تو کچھ اچھی سے معلوم ہو رہے ہو○ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تم تیرے پاں وہ چیز لائے ہیں جس میں یوگ شک شہر کر رہے تھے○ ہم تو تیرے پاس صرخ حق لائے ہیں اور ہیں بھی بالکل چے○ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصہ میں چل دے تو آپ ان کے پیچھے رہنا اور خردار تم میں سے کوئی مزکر بھی نہ دیکھے اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ○ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فصلہ کر دیا کہ مجھ ہوتے ہوئے ان لوگوں کی جزیں کاٹ دی جائیں گی○

(آیت: ۵۹-۶۰) انہوں نے بتایا کہ لوٹیوں کی بستیاں اللئے کے لئے ہم آئے ہیں مگر حضرت لوٹ علیہ السلام کی آل نجات پاپے گی۔ ہاں اس آل میں سے ان کی یہوی نفع نہیں سکتی۔ وہ قوم کے ساتھ رہ جائے گی اور ہلاکت میں ان کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی۔

دو حسین لڑکے☆☆☆ (آیت: ۶۱-۶۲) یہ فرشتے نوجوان حسین لڑکوں کی شکل میں حضور لوٹ علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو حضرت لوٹ علیہ السلام نے کہا، تم بالکل ناشناس اور انجحان لوگ ہو۔ تو فرشتوں نے راز کھول دیا کہ ہم عذاب اللہ لے کر آئے ہیں جسے آپ کی قوم نہیں مانتی تھی اور جس کے آنے میں شک شہر کر رہی تھی۔ ہم حق بات اور قطعی حکم لے کر آئے ہیں۔ اور فرشتے خانمیت کے ساتھ ہی نازل ہوا کرتے ہیں اور ہم ہیں بھی چے۔ جو بخار آپ کو دے رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی کہ آپ نجات پا میں اور آپ کی یہ کافر قوم ہلاک ہوگی۔

لوٹ علیہ السلام کو ہدایت:☆☆☆ (آیت: ۶۴-۶۵) حضرت لوٹ علیہ السلام سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزرتے ہی آپ اپنے والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ خود آپ ان سب کے پیچھے رہیں تاکہ ان کی اچھی طرح مگر انی کرچکیں۔ یہی سنت رسول اللہ ﷺ کی تھی کہ آپ لشکر کے آخر میں چلا کرتے تھے تاکہ کمزور اور گرے پڑے لوگوں کا خیال رہے۔ پھر فرمادیا کہ جب قوم پر عذاب آئے اور ان کا شور و غل سنائی دے تو ہرگز ان کی طرف نظریں نہ اٹھانا، انہیں اسی عذاب و سزا میں چھوڑ کر تمہیں جانے کا حکم ہے۔ چلے جاؤ گویا ان کے ساتھ کوئی تھا جو انہیں راستہ دکھاتا جائے۔ ہم نے پہلے ہی سے حضرت لوٹ علیہ السلام سے فرمادیا تھا کہ مجھ کے وقت یہ لوگ مٹا دیئے جائیں گے۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ ان کے عذاب کا وقت مجھ ہے جو بہت ہی قریب ہے۔

**وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ هُوَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا
تَفْضِيُحُونَ هُوَ وَاتَّقُوا إِلَهَهُ وَلَا تُخْرُونَ هُوَ قَالُوا أَوْلَئِكَ نَنْهَا
عِنِ الْعِلَمِيْنَ هُوَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنْتَى إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ هُوَ
لَعْمَرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرٍ تِهْمَ يَعْمَهُونَ هُوَ فَأَخْذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ
مُشْرِقِيْنَ هُوَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافَلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً**

مَنْ سِجِّيلَ هُنَّ اَتَ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِلْمُتَوَسِّمِينَ هُنَّ وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلِ مُقِيمٍ هُنَّ اَتَ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ هُنَّ

شہری لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے○ لوٹ نے کہا ہے یوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوانہ کرو○ اللہ سے ڈرو اور میری آبرور یزی نہ کرو○ وہ بولے: کیا ہم نے تجھے دنیا کے اپنی لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کر رکھا؟○ لوٹ نے کہا، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری کرتا ہی ہے بچیاں موجود ہیں○ تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدستی میں سرگردان تھے○ پس سورج نکلنے لکھتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا○ بالآخر ہم نے اس شہر کو اپر تکے کر دیا اور ان لوگوں پر نکرداں پر پھر بر سائے○ ہر ایک عبرت حاصل کرنے والے کے لئے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں○ یہ سب ایسی راہ پر ہے جو برادر جلتی رہتی ہے○ اور اس میں ایمانداروں کے لئے بڑی نشانی ہے○

قوم لوٹ کی خرمتیاں: ☆☆ (آیت: ۶۷-۶۸) قوم لوٹ کو جب معلوم ہوا کہ حضرت لوٹ علیہ السلام کے گھر نوجوان خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ اپنے بدارادے سے خوشیاں مناتے ہوئے چڑھ دوڑے۔ پیغمبر رب علیہ السلام نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اللہ سے ڈرو۔ میرے مہمانوں میں مجھے رسوانہ کرو۔ اس وقت خود حضرت لوٹ علیہ السلام کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ ہود میں ہے۔ پہاں گو اس کا ذکر بعد میں ہے اور فرشتوں کا ظاہر ہو جانا پہلے ذکر ہوا ہے لیکن اس سے ترتیب مقصود نہیں، اس اور خصوصاً ایسی گھجہ جہاں اس کے خلاف دلیل موجود ہو۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ میری آبرور یزی کے درپے نہ ہو جاؤ۔ لیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خیال تھا تو انہیں آپ نے اپنا مہمان کیوں بنایا؟ ہم تو آپ کو اس سے منع کر سکتے ہیں۔ تب آپ نے انہیں مزید سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری عورتیں جو میری لڑکیاں ہیں، وہ خواہش پوری کرنے کی چیزیں ہیں نہ کہ یہ۔ اس کا پورا ایمان نہایت وضاحت کے ساتھ ہم پہلے کر سکتے ہیں۔ اس لئے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ یہ بدلگ اپنی خرمتی میں تھے اور جو قضاء اور عذاب ان کے سروں پر جھوم رہا تھا، اس سے غافل تھے، اس لئے خدا نے تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کی عمر کی قسم کھا کر ان کی یہ حالت بیان فرمار ہا ہے اس میں آنحضرت ﷺ کی بہت سکریم اور تعظیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حقیقی مخلوق پیدا کی ہے۔ ان میں حضور ﷺ سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں، اللہ نے آپ کی حیات کے سوا کسی کی حیات کی قسم نہیں کھائی۔ سکررہ سے مراد مظلومات و گمراہی ہے، اسی میں وہ کھیل رہے تھے اور تردد میں تھے۔ آل ہود کا عبرتاک انجام: ☆☆ (آیت: ۶۸-۶۹) سورج نکلنے کے وقت آسان سے ایک دل دہلانے والی اور جگر پاش پاش کر دینے والی چنگکھاڑی کی آواز آئی۔ اور ساتھ ہی ان کی بستیاں اور کوٹھیں۔ آسان کے قریب پہنچ گئیں اور وہاں سے الٹ دی گئیں، اور کا حصہ پہنچ اور پہنچ کا اوپر ہو گیا۔ ساتھ ہی ان پر آسان سے پھر بر سے ایسے جیسے کپی مٹی کے کنکراں لو دپھر ہوں، سورہ ہود میں اس کا مفصل بیان ہو چکا ہے۔ جو کبھی بصیرت و بصارت سے کام لے دیکھنے نے، سوچنے سمجھنے اس کے لئے تو ان بستیوں کی بر بادی میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ ایسے پا کہاں لوگ ذرا ذرا سی چیزوں سے بھی عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، پنڈ پکڑتے ہیں اور غور سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور لم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تامل اور غور و خوض کر کے اپنی حالت سنوار لیتے ہیں۔ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، منوں کی عقلمندی اور دور بینی کا لحاظ کھو۔ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کے نور اور اللہ کی توفیق سے دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے بندے لوگوں کو ان کے نشانات سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ سبی شارع عام پر موجود ہے جس پر ظاہری اور باطنی عذاب آیا، الٹ گئی پھر کھائے، عذاب کا نشانہ ہی۔ اب ایک گندے اور بد مزہ کھائی کی جھیل سی بی ہوئی

ہے۔ تم رات دن وہاں سے آتے جاتے ہو۔ تجھ بھی ٹکنندی سے کام نہیں لیتے۔ غرض صاف واضح اور آمد و رفت کے راستے پر یہ الہی ہوئی بستی موجود ہے۔ یہ بھی معنی کئے ہیں کہ وہ کتاب نہیں میں ہے لیکن یہ معنی کچھ زیادہ بند نہیں بیٹھتے والہ اعلم۔ اللہ رسول پر ایمان لانے والوں کے لئے یہ ایک کھلی دلیل اور جاری نشانی ہے کہ کس طرح اللہ اپنے والوں کو نجات دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو غارت کرتا ہے۔

**وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيَكَةِ لَظَلَمِيْنَ لَهُ فَإِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ
لِإِمَامٍ مُّبِيْنٍ لَهُ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابَ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ لَهُ
وَأَتَيْنَاهُمْ إِلَيْنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعَرِّضِيْنَ لَهُ وَكَانُوا يَنْحِشُوْنَ
مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَهْنِيْنَ لَهُ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِيْحِيْنَ لَهُ
فَمَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ لَهُ**

ایک بستی کے دربنے والے بھی بڑے خالم تھے ॥ جن سے ہم نے آخر اتفاقام لے لیا۔ یہ دونوں شہر کلے عام راستے پر ہیں ॥ حجر و والوں نے بھی رسولوں کو جھلا دیا ॥ جنہیں ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی تھیں لیکن ہم وہ ان سے گردن موڑنے والے ہی رہے ॥ یہ لوگ اپنے مکان پہاڑوں میں خاطر جنمی سے تراش لیا کرتے تھے ॥ آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے آواز تند نے آب بوجا ॥ پس کسی تدیر کرب نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا ॥

اصحاب ایکہ کا المناک انجام: ☆☆ (آیت: ۷۸-۷۹-۸۰) اصحاب ایکہ سے مراد قوم شعیب ہے۔ ایکہ کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ ان کا ظلم علاوه شرک و کفر کے غارہ تھی اور ناپ توں کی بھی تھی۔ ان کی بستی لوطیوں کے قریب تھی اور ان کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا۔ ان پر بھی ان کی پیغمبری شرتوں کی وجہ سے عذاب الہی آیا۔ یہ دونوں بستیاں بر سر شارع عام تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوٹ کی قوم تھے کچھ دور نہیں۔

آل شمودی کی تباہیاں: ☆☆ (آیت: ۸۰-۸۱-۸۲) حجر و والوں سے مراد شمودی ہیں جنہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو جھلا دیا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایک نبی کا جھلانے والا کو یا سبب نبیوں کا انکار کرنے والا ہے۔ اسی لئے فرمایا گیا کہ انہوں نے نبیوں کو جھلا دیا۔ ان کے پاس ایسے مجرمے پہنچے جن سے حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی ان پر کھل گئی جیسے کہ ایک سخت پھر کی چٹان سے اونٹی کا لکنا جوان کے شہروں میں چرتی چکتی تھی اور ایک دن وہ پانی بیٹھی تھی۔ ایک دن شہریوں کے جانور۔ مگر پھر بھی یہ لوگ گردن کش ہی رہے بلکہ اس اونٹی کو مارڈا۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، بس اب تین دن کے اندر اندر قوم پر قہر الہی نازل ہو گا۔ یہ بالکل سچا وعدہ ہے اور اسی عذاب ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر بھی اپنے اندھا پے کو ترجیح دی۔ یہ لوگ صرف اپنی قوت جتناے اور ریا کاری ظاہر کرنے کے واسطے تکبر و تجبر کے طور پر پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے۔ کسی خوف کے باعث یا ضرورت یا چیز نہ تھی۔ جب رسول کریم ﷺ تجوہ کرتے ہوئے ان کے مکانوں سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا اڑا لیا اور سواری کو تیز چلا دیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جن پر عذاب الہی اتراء ہے، ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزو۔ اگر روتا نہ آئے تو روشنی صورت بنا کر چلو کہ ایسا نہ ہو کہ انہی عذابیوں کا شکار تم بھی بن جاؤ۔ آخراں پر تھیک چوتھے دن کی صبح عذاب الہی بصورت چلگا ہڑا آیا۔ اس وقت ان کی کمائیاں کچھ کام نہ آئیں۔ جن کھتیوں اور پھولوں کی حفاظت کے لئے اور انہیں بڑھانے کے لئے ان لوگوں نے اونٹی کا پانی پینا پسند کر کے اسے قتل کر دیا تھا، وہ آج بے سود ثابت ہوئے اور امر رب اپنا کام کر گیا۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَلَّا تَبْيَغُ فَاصْفَحِ الصَّفَحَ الْجَمِيلَ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ النَّعْلَقُ **الْعَلِيمُ**

ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو حق کے ساتھ ہی پیدا فرمایا ہے اور قیامت ضرور ضرور آنے والی ہے پس توضیح داری اور اچھائی سے درگز کر لے○ یقیناً تم اپر و درگار ہی پیدا کرنے والا اور جانے والا ہے○

نبی اکرم ﷺ کو تسلیاں: ☆☆ (آیت: ۸۵-۸۶) اللہ نے تمام مخلوق عدل کے ساتھ بنائی ہے، قیامت آنے والی ہے بروں کو برے بدئے نیکوں کو نیک بدے ملنے والے ہیں۔ مخلوق باطل سے پیدا نہیں کی گئی۔ ایسا گمان کافروں کا ہوتا ہے اور کافروں کے لئے دوزخ ہے اور آیت میں ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے کار پیدا کیا ہے؟ اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بلندی والا ہے اللہ ما لک حق جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، عرشِ کریم کا مالک وہی ہے۔ پھر اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ مشکوں سے جسم پوشی کیجئے۔ ان کی ایذا اور جھلنا اور برآ کہنا برداشت کر لیجئے۔ جیسے اور آیت میں ہے ان سے جسم پوشی کیجئے۔ اور سلام کہہ دیجئے۔ نہیں ابھی معلوم ہو جائے گا۔ یہ حکم جہاد کے حکم سے پہلے تھا۔ یہ آیت مکیہ ہے اور جہاد بعد از بھرت مقرر اور شروع ہوا ہے۔ تیراب خالق ہے اور خالق مارڈا نے کے بعد بھی پیدائش پر قادر ہے۔ اسے کسی چیز کی بار بار کی پیدائش عاجز نہیں کر سکتی۔ ریزوں کو جب بکھر جائیں وہ جمع کر کے جان ڈال سکتا ہے۔ جیسے فرمان ہے اولیس الْذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقِدْرَتِنَّعْ، آسمان و زمین کا خالق کیا ان جیسوں کی پیدائش کی قدرت نہیں رکھتا؟ بے شک وہ پیدا کرنے والا علم والا ہے۔ وہ جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہو جانے کو فرمادیتا ہے بس وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ذات ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔

وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيٍ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَخَرَّتْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

یقیناً ہم نے تجھے سات آیتیں دے رکھی ہیں کہ دہرائی جاتی ہیں اور تجھے بروگ قرآن بھی دے رکھا ہے○ تو ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑا جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو بہرہ مند کر رکھا ہے نہ تو ان پر افسوس کر اور مومنوں کے لئے اپنا باز و جھکائے رہو

قرآن عظیم سبع مثالی اور ایک لا زوال دولت: ☆☆ (آیت: ۸۷-۸۸) اے نبی ﷺ ہم نے جب قرآن عظیم جسمی لا زوال دولت تجھے عنایت فرمائی ہے۔ تو تجھے نہ چاہئے کہ کافروں کے دنیوی مال و متعاق اور خاٹھ بائٹھ کو لچائی ہوئی نظریوں سے دیکھئے یہ تو سب فانی ہے اور صرف ان کی آزمائش کے لئے چند روزہ انہیں عطا ہوا ہے۔ ساتھ ہی تجھے ان کے ایمان نہ لانے پر صدے اور افسوس کی بھی چند اس ضرورت نہیں۔ ہاں تجھے چاہئے کہ زمی خوش خلقی، تواضع اور ملنساری کے ساتھ مومنوں سے پیش آتا رہے۔ جیسے ارشاد ہے لفَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ لَوْكَو! تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک رسول آگئے ہیں جن پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے، جو تمہاری بہبودی کا دل سے خواہاں ہے، جو مسلمانوں پر پرے درجے کا شفیق و مہربان ہے۔ سبع مثالی کی نسبت ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم کی ابتداء کی

سات بھی سورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور یونس۔ اس لئے کہ اس سورتوں میں فرائض کا، حدود کا، قسموں کا اور احکام کا خاص طریق پر بیان ہے۔ اسی طرح مثاًلیں، خبریں اور عبرتیں بھی زیادہ ہیں۔ بعضوں نے سورہ اعراف تک کی چھ سورتیں گنوا کر ساتوں سورت افال اور برآۃ کو بتالیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں سورتیں مل کر ایک ہی سورت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹی تھیں لیکن جب آپ نے تختیاں گردیں تو دو انھیں اور چارہ تھیں۔ ایک قول ہے، قرآن عظیم سے مراد بھی یہی ہیں۔ زیاد کہتے ہیں، میں نے تجھے سات جزویے ہیں۔ حکم، منع، بشارت، ذرا و مثالیں، نعمتوں کا شمار اور قرآنی خبریں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مراد سیع مثاںی سے سورہ فاتحہ ہے جس کی سات آیتیں ہیں۔ یہ سات آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحيم سمیت ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ نے تمہیں مخصوص کیا ہے۔ یہ کتاب کا شروع ہیں۔ اور ہر رکعت میں دھراں جاتی ہیں۔ خواہ فرض نماز ہو، خواہ نماز ہو امام، بن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کو پسند فرماتے ہیں اور اس بارے میں جو حدیثیں مردی ہیں۔ ان سے اس پر استدلال کرتے ہیں، ہم نے وہ تمام احادیث فتاویٰں

سورہ فاتحہ کے بیان میں اپنی اس تفسیر کے اول میں لکھ دی ہیں فائدہ اللہ۔

اماں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ دو حدیثیں وارد فرمائی ہیں۔ ایک میں ہے، حضرت ابوسعید بن عطیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا جو آنحضرت ﷺ نے مجھے بلا یا لیکن میں آپ کے پاس نہ آیا۔ نماز ختم کر کے پہنچا تو آپ نے پہنچا کہ اسی وقت کیوں نہ آئے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، آپ نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں؟ یا یہاں الذین امْنُوا اسْتَحْيَوْا لِلّهِ وَلِلّهِ سُولِ اِذَا ذَعَاثِمْ یعنی ایمان والوالله اور اس کے رسول کی بات مان لو جب بھی وہ تمہیں پکاریں۔ کن آپ میں تجھے مسجد میں سے لکھنے سے پہلے یہ قرآن کریم کی بہت بڑی سورت بتاؤں گا۔ تھوڑی دری میں جب حضور ﷺ تشریف لے جائے گا تو میں نے آپ کا وعدہ یاد دلایا۔ آپ نے فرمایا وہ سورۃ الحمد لذبیب العالیین کی ہے۔ یہی سیع مثاںی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ پس صاف ثابت ہے کہ سیع مثاںی اور قرآن عظیم سے مراد سورہ آپ کا فرمان ہے کہ امام القرآن یعنی سورہ فاتحہ سیع مثاںی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ پس صاف ثابت ہے کہ سیع مثاںی اور قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اس کے سوا اور بھی یہی ہے۔ اس کے خلاف یہ حدیثیں نہیں۔ جب کہ ان میں بھی یہ حقیقت پائی جائے ہے کہ پورے قرآن کریم کا وصف بھی اس کے خالق نہیں۔ چیز فرمان اللہ ہے اللہ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثَ إِنَّمَا مُتَشَابَهًا مِنْهُ مَا

اس آیت میں سارے قرآن کو مثاںی کہا گیا ہے۔ اور متشابہ بھی۔ پس وہ ایک طرح سے مثاںی ہے اور دوسری وجہ سے مثاہی۔ اور قرآن عظیم بھی یہی ہے جیسے کہ اس روایت سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ سے سوال ہوا کہ تقوے پر جس مسجد کی بناء ہے وہ کون ہے؟ تو آپ نے اپنی مسجد کی طرف اشارہ کیا حالانکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آیت مسجد قبا کے بارے میں اتری ہے۔ پس قاعدة بھی ہے کہ کسی چیز کا ذکر کرو و دوسرا چیز سے انکا نہیں ہوتا۔ جب کہ وہ بھی وہی صفت رکھتی ہو۔ واللہ اعلم۔

پس تجھے ان کی ظاہری شیپٹاپ سے بے نیاز رہنا چاہئے۔ اسی فرمان کی بنا پر امام ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحیح حدیث جس میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، ہم میں سے وہ نہیں جو قرآن کے ساتھ تغفیل نہ کرے کی تفسیر لیکمی ہے کہ قرآن کو لے کر اس کے مساوا سے دست بردار اور بے پرواہ نہ ہو جائے وہ مسلمان نہیں۔ گویہ تفسیر بالکل صحیح ہے لیکن اس حدیث سے یہ مقصود نہیں۔ حدیث کا صحیح مقصداں ہماں تفسیر کے شروع میں ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب ان اپنی حاتم میں ہے، حضور ﷺ کے ہاں ایک مرتبہ مہمان آئے آپ کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ آپ نے ایک یہودی سے رجب کے وعدے پر آٹا ادھار مٹگوا لیکن اس نے کہا بغیر کسی چیز کو صحن رکھے میں نہیں دوں گا۔ اس وقت حضور ﷺ نے فرمایا، واللہ میں آسمان والوں میں امین ہوں اور زمین والوں میں بھی اگر یہ مجھے ادھار دیتا یا میرے ہاتھ فروخت کر دیتا تو میں اسے ضرور ادا کرتا پس آیت لا تَمْدَنَ لَنْ تَأْذِلَ ہوئی اور گویا آپ کی دل جوئی کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو منوع ہے کہ کسی کے مال و متاع کو

لچائی ہوئی نگاہوں سے تاکے۔ یہ جو فرمایا کہ ان کی جماعت کو جو فائدہ ہم نے دے رکھا ہے اس سے مراد کفار کے مالدار لوگ ہیں۔

**وَ قُلْ إِنِّي أَنَا اللَّهُذِيْرُ الْمُبِيْنُ لِهِ كَمَا آنْزَلْنَا عَلَى
الْمُقْتَسِمِينَ لِهِ الدَّيْنَ جَعَلْنَا الْقُرْآنَ عِصِيْنَ هَوَ فَوَرَّيْلَكَ
لِنَسْأَلْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ لِهِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ هَوَ**

کہہ دے کہ میں تو کھلے طور پر ذرا نئے والا ہوں ॥ جیسے کہ ہم نے ان قسمیں کھانے والوں پر اتنا جھوٹ نے اس کتاب اللہ کے کھلے گکھے کر دیئے۔ قسم ہے تیرے پالے والے کی ہم ان بہب سے ضرور باز پرس کریں گے ॥ ہر اس چیز کی جودہ کرتے رہے ॥

انیاء کی تکذیب عذاب اللہ کا سبب ہے: ☆☆ (آیت: ۸۹-۹۳) حکم ہوتا ہے کہ اے پیغمبر ﷺ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمام لوگوں کو عذاب اللہ سے صاف صاف ڈرایا ہے والا ہوں۔ یاد رکھو میرے جھلانے والے بھی اگلے نبیوں کے جھلانے والوں کی طرح عذاب اللہ کے شکار ہوں گے۔ مقتسمین سے مراد قسمیں کھانے والے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور ان کی مخالفت اور ایذا دہی پر آپ میں قسماتی کر لیتے تھے جیسے کہ قوم صالح کا بیان قرآن حکیم میں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر عہد کیا کہ راتوں رات صالح اور ان کے گھر انے کو ہم موت کے گھاث اتار دیں گے۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ مردے پھر جینے کے نہیں، اخ۔ اور جگہ ان کا اس بات پر قسمیں کھانے کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو کبھی کوئی رحمت نہیں مل سکتی۔ الغرض جس پیغیر کونہ مانتے، اس پر قسمیں کھانے کی نہیں عادت تھی اس لئے انہیں مقتسمین کہا گیا ہے۔

صحیحین میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میری اور ان ہدایات کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کے لوگوں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں دیکھا ہے دیکھو ہوشیار ہو جاؤ نپنے اور ہلاک نہ ہونے کے سامان کرلو۔ اب کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی عرصہ میں چل پڑتے ہیں اور دشمن کے پنج سے نک جاتے ہیں لیکن بعض لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور وہیں بے فکری سے پڑے رہتے ہیں کہ ناگاہ دشمن کا لشکر آپنپتا ہے اور گھیر گھار کر انہیں قتل کر دیتا ہے پس یہ مثال میرے مانے والوں کی اور نہ مانے والوں کی۔ ان لوگوں نے ان اللہ کی کتابوں کو جوان پر اتری تھیں پارہ پارہ کر دیا، جس مسئلے کو جی چاہا، مانا۔ جس سے دل گھبرا، چھوڑ دیا۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ کتاب کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے یہ بھی مردی ہے کہ مراد اس سے کفار کا کتاب اللہ کی نسبت یہ کہنا ہے کہ یہ جادو ہے یہ کہانت ہے یہ اگلوں کی کہانی ہے اس کا کہنے والا جادوگر ہے، مجھوں ہے، کاہن ہے وغیرہ۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس سردار ان قریش جمع ہوئے۔ حج کا موسم قریب تھا اور یہ شخص ان میں بڑا شریف اور ذری رائے سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ان سب سے کہا کہ دیکھو حج کے موقع پر دور دراز سے تمام عرب بیہاں جمع ہوں گے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اس ساتھی نے ایک اور ہم مچار کھا ہے لہذا اس کی نسبت ان بیرونی لوگوں سے کیا کہا جائے۔ یہ بتاؤ اور کسی ایک بات پر اجماع کرلو کہ سب وہی کہیں۔ ایسا نہ ہو کوئی کچھ کہے۔ کوئی کچھ کہے۔ اس سے تو تمہارا اعتبار اٹھ جائے گا اور وہ پردیسی تمہیں جھوٹا خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا بعد انشتمس آپ ہی کوئی ایسی بات تجویز کر دیجئے، اس نے کہا، پہلے تم اپنی تو کہوتا کہ مجھے بھی غور و خوض کا موقعہ ملے، انہوں نے کہا پھر بھاری رائے میں توہ فحص اسے کاہن بتالے۔ اس نے کہا۔ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے۔ لوگوں نے کہا۔ پھر مجھوں کہنا بالکل درست ہے۔ اس نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ کہا اچھا تو شاعر کہیں؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شعر جانتا ہی

نہیں۔ کہا اچھا پھر جادو گر کہیں؟ کہا اسے جادو سے مس بھی نہیں اس نے کہا سنو والد اس کے قول میں عجب مٹھاں ہے، ان باتوں میں سے تم جو کہو گے دنیا سمجھ لے گی کہ محض غلط اور سفید جھوٹ ہے۔ گوئی بات نہیں بنتی لیکن کچھ کہنا ضرور ہے۔ اچھا بھائی سب اسے جادو گرتا نہیں۔ اس امر پر یہ مجمع برخاست ہوا۔ اور اسی کا ذکر ان آئتوں میں ہے۔

روز قیامت ایک ایک چیز کا سوال ہوگا: ☆☆ ان کے اعمال کا سوال ان سے ان کا رب ضرور کرے گا یعنی اللہ عزوجلہ عالیٰ الاء اللہ سے۔ اس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے ہر ایک شخص قیامت کے دن تھا تھا اللہ کے سامنے پیش ہو گا جیسے ہر ایک شخص چودہ ہویں رات کے چاند کو اکیلا اکیلا دیکھتا ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے انسان تو مجھ سے مغور کیوں ہو گیا؟ تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ تو نے میرے رسولوں کو کیا حواب دیا؟۔ ابوالعلیٰ فرماتے ہیں دو چیز کا سوال ہر ایک سے ہوگا۔ معبود کے بنا کہا تھا؟ اور رسول کی مانی یا نہیں؟ این عینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل اور امال کا سوال ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اے معاذ! انسان سے قیامت کے دن ہر عمل کا سوال ہوگا۔ یہاں تک کہ اس کے آنکھ کے سرے اور اس کے ہاتھ کی گندھی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا، دیکھ معاذ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تو کی وقارہ جائے۔ اس آیت میں تو ہے کہ ہر ایک سے اس کے عمل کی بابت سوال ہوگا۔ اور سورہ حجٰن کی آیت میں ہے کہ **فَيُوْمَئِذٍ لَا يُسْكُلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا حَاجٌ** کہ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کا سوال نہ ہوگا۔ ان دونوں آئتوں میں بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تفہیق یہ ہے کہ یہ سوال نہ ہو گا کہ تو نے یہ عمل کیا؟ بلکہ یہ سوال ہوگا کہ کیوں کیا؟

فَاصْدِعْ بِمَا تُؤْمِنْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

كَفَيْنِكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ لَهُ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لَهُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضْيِيقُ صَدْرَكَ بِمَا

يَقُولُونَ لَهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ لَهُ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَا تَيَكَ الْيَقِيْنِ لَهُ

غ

پس تو اس حکم کو جو تجھے کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دے اور مشرکوں سے منہ پیغمبر لے ۰ تھے سے جو لوگ سزا پن کرتے ہیں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہیں ۰ جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انھیں عقریب معلوم ہو جائے گا ۰ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے تو نک دل ہوتا ہے ۰ تو اپنے پروردگاری کی تبعیت اور حمد بیان کرتا رہ اور بحمد کے کرنے والوں میں رہ ۰ اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے ۰

رسول اللہ ﷺ کے مخالفین کا عبرتاک انجام: ☆☆ (آیت: ۹۹-۹۷) حکم ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر رب ﷺ آپ خدا کی باتیں لوگوں

کو صاف بے جھجک پہنچا دیں نہ کسی کی رور عایت بیکھ نہ کسی کا ذر خوف بیکھ۔ مشرکوں کے سامنے توحید حکم کھلایاں کر دیجھ۔ خود عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ نماز میں قرآن کی با آواز بلند تلاوت بیکھ، اس آیت کے اتنے سے پہلے تک حضور ﷺ پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے لیکن اس کے بعد آپ اور آپ کے اصحاب نے کھلے طور پر اشاعت دین شروع کر دی۔ ان نمازوں اڑانے والوں کو ہم پر جھوڑ دئے ہم آپ ان سے نہ لیں گے تو اپنی تبلیغ کے فریضے میں کوتا ہی نہ کر۔ یہ تجاہتے ہیں کہ ذرا سی ستی آپ کی طرف سے دیکھیں تو خود بھی دست بردار ہو جائیں۔ تو ان سے مطلقاً خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہے۔ وہ تجھے ان کے شر سے بچا لے گا۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ اے

رسول ﷺ جو کچھ تیری جانب اتارا گیا ہے، تو اسے پہنچا دے۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کی برائی سے تجھے محفوظ رکھ لے گا۔ چنانچہ ایک دن حضور ﷺ راستے سے جا رہے تھے کہ بعض مشکوں نے آپ کو چھیڑا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں نشرت مارا۔ جس سے ان کے جسموں میں ایسا ہو گیا جیسے نیزے کے ذمہ ہوں۔ اسی میں وہ مر گئے اور یہ لوگ مشکین کے بڑے بڑے روڑ ساتھے۔ بڑی عمر کے تھے اور نہایت شریف گئے جاتے تھے۔ بنو اسد کے قبیلے میں سے تو اسود بن عبدالمطلب ابو زمہ - یہ حضور ﷺ کا بڑا ہی دشمن تھا۔ ایذ ایں دیا کرتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا۔ آپ نے تجھ آ کر اس کے لئے بدعا بھی کی تھی کہ اے اللہ اے اندھا کرو دے۔ بے اولاد کر دے۔ بنی زہرہ میں سے اسود تھا اور بنی مخزوم میں سے ولید تھا اور بنی ہم میں سے عاص بن واکل تھا اور خراصی میں سے حارث تھا۔ یہ لوگ برابر حضور ﷺ کو ایذ ارسانی کے درپے لگ رہتے تھے اور لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارا کرتے تھے اور جو تکلیف ان کے لمب میں ہوتی، آپ کو پہنچایا کرتے۔ جب یہ اپنے مظالم میں حد سے گزر گئے اور بات بات میں حضور ﷺ کا مذاق اڑانے لگتا تو اللہ تعالیٰ نے فاصلہ سے یعلمون تک کی آیتیں نازل فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ طواف کر رہے تھے جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ بیت اللہ شریف میں آپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں اسود بن عبدیغوث آپ کے پاس سے گزارا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے پیٹ کی بیماری ہو گئی اور اسی میں وہ مرا۔ اتنے میں ولید بن مغیرہ گزرا اور اس کی اپڑی ایک خزانی شخص کے تیر کے پھل سے کچھ یونہی سی چلپ گئی تھی اور اسے بھی دو سال گزر چکے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا وہ پھول گئی، پکی اور اسی میں وہ مرا۔ پھر عاص بن واکل گزرا۔ اس کے تکوے کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دنوں بعد یہ طائف جانے کے لئے اپنے گدھے پر سوار چلا تو راستے میں گر پڑا اور تکوے میں کیل گھس گئی جس نے اس کی جان لی۔ حارث کے سر کی طرف اشارہ کیا اور اسے خون آنے لگا اور اسی میں مرا۔

ان سب موذیوں کا سردار ولید بن مغیرہ تھا۔ اسی نے انہیں جمع کیا تھا۔ پس یہ پانچ یا سات شخص تھے جو جڑ تھے اور ان کے اشاروں سے اور ذیل لوگ بھی کمینہ پن کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ اس لغور حکمت کے ساتھ ہی یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ انہیں اپنے کرتوت کا مزہ ابھی ابھی آجائے گا۔ اور بھی جو رسول کا مخالف ہو اللہ کے ساتھ شر کرے اس کا یہی حال ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی بکواس سے اے نبی تمہیں تکلیف ہوتی ہے دل تجھ ہوتا ہے لیکن تم ان کا خیال بھی نہ کرو۔ اللہ تھہار احمد گار ہے تم اپنے رب کے ذکر اور اس کی تسبیح اور حمد میں لگے رہو۔ اس کی عبادت جی بھر کر کرو نماز کا خیال رکھو سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دو۔ مند احمد میں ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم شروع دن کی چار رکعت سے عاجز نہ ہو۔ میں تجھے آخوند تک کفایت کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کا معاملہ آپ پڑتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔

یقین کا مفہوم: ☆☆ یقین سے مراد اس آخری آیت میں موت ہے۔ اس کی دلیل سورہ مدثر کی وہ آیتیں ہیں جن میں بیان ہے کہ ہم ہمیں اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے نہیں تھے، باتیں بنایا کرتے تھے اور قیامت کو جھلاتے تھے یہاں تک کہ موت آگئی۔ یہاں بھی موت کی جگہ لفظ یقین ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضور ﷺ ان کے پاس گئے تو انصار کی ایک عورت امام العلاء نے کہا کہ اے ابوالسائب اللہ کی تجوہ پر حتمیں ہوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری مکریم و عزت کی، حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا، تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ نے اس کا اکرام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، پھر کون ہو گا جس کا اکرام ہو؟ آپ نے فرمایا، سنوادے موت آچکی اور مجھے اس کیلئے بھلانی کی امید ہے۔ اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کا لفظ ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نماز وغیرہ عبادات انسان پر فرض ہے جب تک کہ

اس کی عقل باتی رہے اور ہوش حواس ثابت ہوں جیسی اس کی حالت ہو اسی کے مطابق نماز ادا کر لے۔ حضور ﷺ کافرمان ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے ہو سکے تو پیش کرنے ہو سکے تو کروٹ پر لیٹ کر۔ بد نہ ہوں نے اس سے اپنے مطلب کی ایک بات گھڑی ہے کہ جب تک انسان درجہ کمال تک نہ پہنچے، اس پر عبادات فرض رہتی ہیں لیکن جب معرفت کی منزلیں طے کر چکا تو عبادات کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر کفر و ضلالت اور جہالت ہے۔ یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ انبیاء اور خصوصاً سرور انبیاء علیہم السلام اور آپ کے اصحاب معرفت کے تمام درجے طے کر چکے تھے اور رب ای علم و عرفان میں سب دنیا سے کامل تھے رب کی صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ باوجود اس کے سب سے زیادہ اللہ کی عبادات کرتے تھے اور رب کی اطاعت میں تمام دنیا سے زیادہ مشغول رہتے تھے اور دنیا کے آخر دم تک اسی میں لگے رہے۔ پس ثابت ہے کہ یہاں مراد یقین سے موت ہے۔ تمام مفسرین صحابہ تابعین وغیرہ کا یہی مذہب ہے فاعل الدلہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے اس نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے نیک کاموں میں مدد چاہتے ہیں۔ اسی کی پاک ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم اس مالک حاکم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بہترین اور کامل اسلام ایمان اور نیکی پر موت دے۔ وہ جادو ہے اور کرم ہے۔
الحمد للہ سورہ حجر کی تفسیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

تفسیر سورہ النحل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آتَىٰ أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعِجْلُوهُ سَبَّحَنَهُ وَ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿١﴾

شروع اللہ کے نام سے جو براہم برنا نہیا ت رحم کرنے والا ہے

اللہ کا حکم آپنچا اب اس کی جلدی نہ چاؤ تمام پاکی اس کے لئے ہے وہ برت ہے۔ ان سب سے جنہیں یہ شریک اللہ بتلاتے ہیں ۰

عذاب کا شوق جلد پورا ہوگا: ☆☆ (آیت: ۱) اللہ تعالیٰ قیامت کی نزد کی کی خرد رے رہا ہے اور گویا کہ وہ قائم ہو چکی۔ اس لئے ماضی کے لفظ سے بیان فرماتا ہے جیسے فرمان ہے، لوگوں کا حساب قریب آچکا۔ پھر بھی وہ غفلت کے ساتھ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور آیت میں ہے قیامت قریب آچکی۔ چاند پھٹ گیا۔ پھر فرمایا، اس قریب والی چیز کے اور قریب ہونے کی تناکیں شہ کرو۔ وہ کی ضمیر کا مرچ یا تو لفظ اللہ ہے یعنی اللہ سے جلدی نہ چاہو یا عذاب ہیں یعنی عذابوں کی جلدی نہ چاؤ۔ دونوں معنی ایک دوسرے کے لازم طور ہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے یہ لوگ عذاب کی جلدی چاہ رہے ہیں مگر ہماری طرف سے اس کا وقت مقرر نہ ہوتا تو بے شک ان پر عذاب آ جاتے۔ یہی عذاب ان پر آئے گا ضرور اور وہ بھی ناگہاں ان کی غفلت میں۔ یہ عذابوں کی جلدی کرتے ہیں اور جہنم ان سب کافروں کو مجھرے ہوئے ہوئے ہے۔ مخاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ایک عجیب مطلب بیان کیا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے فرائض اور حدود نازل ہو چکے۔ امام ابن جریر نے اسے خوب رو دیا ہے اور فرمایا ہے ایک شخص بھی تو ہمارے علم میں ایسا نہیں جس نے شریعت کے وجود سے پہلے اسے مانگئے میں عجلت کی ہو۔ مراد اس سے عذابوں کی جلدی ہے جو کافروں کی عادت تھی کیونکہ وہ انہیں مانتے ہی نہ تھے۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا ہے یہ سُتْعَدِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا اُخْرُجَ بِإِيمَانِكُمْ تَوَسَّلُوا بِهَا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔

بات یہ ہے کہ عذاب الہی میں شک کرنے والے دور کی گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔

ابن ابی حاتم میں ہے، حضور ﷺ فرماتے ہیں، قیامت کے قریب مغرب کی جانب سے ڈھال کی طرح کا سیاہ ابر محمود دار ہو گا اور وہ بہت جلد آ سماں پر پڑھے گا۔ پھر اس میں سے ایک منادی ندا کرے گا۔ لوگ تجب سے ایک دوسرے سے کہیں گے میاں کچھ سا بھی؟ بعض

ہاں کہیں گے اور بعض بات کو اڑادیں گے۔ وہ پھر دوبارہ ندا کرے گا اور کہے گا اے لوگو! اب تو سب کہیں گے کہ ہاں صاحب آواز تو آئی۔ پھر وہ تیسری دفعہ منادی کرے گا اور کہے گا اے لوگو! امر خداوندی آپنچا۔ اب جلدی نہ کرو۔ اللہ کی قسم دفعہ جو کسی کپڑے کو پھیلائے ہوئے ہوں گے سمینے بھی نہ پائیں گے جو قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہو گا۔ ابھی پانی بھی پلانہ پایا ہو گا جو قیامت آئے گی۔ دودھ دو حصے والے لی بھی نہ سکیں گے کہ قیامت آجائے گی، ہر ایک نفساً فی میں لگ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نفس کریم سے شرک اور عبادات غیر سے پاکیزگی بیان فرماتا ہے۔ فی الواقع وہ ان تمام باتوں سے پاک بہت دور اور بہت بلند ہے۔ یہی مشرک ہیں جو مکر قیامت بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔

يُنَزِّلُ الْمَلَكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةِ آنَّ أَنْذِرْوَا آتَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوْنَهُ

وہی فرشتوں کو اپنی دویں کام سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتنا تا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تو تم مجھ سے ذرتے رہا کرو۔

وہی کیا ہے؟ ☆☆ (آیت: ۲) روح سے مراد یہاں وہی ہے جیسے آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ أَمْرِنَا لَعْنَهُمْ نے اسی طرح تیری طرف اپنے حکم سے وہی نازل فرمائی حالانکہ تجھے تو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کی ماہیت کیا ہے؟ ہاں، ہم نے اسے نور بنا کر جنے بندوں میں سے راستہ دکھایا۔ یہاں فرمان ہے کہ ہم اپنے جن بندوں کو چاہیں، پیغمبری عطا فرماتے ہیں، ہمیں ہی اس کا پورا علم ہے کہ اس کے لائق کون ہے؟ ہم ہی فرشتوں میں سے بھی اس اعلیٰ منصب کے فرشتے چھانٹ لیتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ اپنی وہی اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتنا تا ہے تا کہ وہ ملاقات کے دن سے ہوشیار کر دیں جس دن سب کے سب اللہ کے سامنے ہوں گے۔ کوئی چیز اس سے مخفی نہ ہوگی۔ اس دن مک کس کا ہو گا؟ صرف اللہ واحد و تبارک۔ یہ اس لئے کہ وہ لوگوں میں وحدانیت اللہ کا اعلان کر دیں۔ اور پارسائی سے دور مشرکوں کو ڈرا میں اور لوگوں کو سمجھاویں کہ وہ مجھ سے ذرتے رہا کریں۔ عالم علوی اور سفلی کا خالق اللہ کریم ہی ہے۔ بلند آسمان اور بھیلی ہوئی رہیں میں تمام مخلوق کے اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور یہ سب بطور عبشت۔ نیکوں کو جزا اور بدروں کو سزا ہوگی۔ وہ تمام اور معبودوں اور مشرکوں سے بری اور بے زار ہے۔ واحد ہے لاشریک ہے اکیلا ہی سزاوار عبادات ہے۔

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحِقْطِ تَعْلَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّمِينٌ ﴿٢﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٣﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرُحُونَ ﴿٤﴾ وَتَحْمِلُ أثْقَالَكُمْ إِلَى بَكْدِ لَمَّا تَكُونُوا بِلِغَيْهِ إِلَّا بِشَقٍّ الْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

ای نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور اس سے بری بے جو شرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا کہ وہ صریح جگہ الوہی بنیجا۔

اے نے چوپائے پیدا کئے جن میں تمہارے لئے گری کے لباس ہیں۔ اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں ॥ اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے۔ جب چاکر لاد تب بھی اور جب چانے لے جاؤ تب بھی ॥ اور وہ تمہارے بوجہ ان شہروں تک امتحانے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدمی جان کے بخوبی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے ॥

انسان حقیر و ذلیل لیکن خالق کا انتہائی نافرمان ہے: ☆☆ (آیت: ۳-۲) اس نے انسان کا سلسلہ نطفے سے جاری رکھا ہے جو ایک پانی ہے۔ حقیر و ذلیل یہ جب ٹھیک ٹھاک بنادیا جاتا ہے تو اکثر فوں میں آ جاتا ہے، رب سے جھگڑ نے لگتا ہے، رسولوں کی خلافت پر قتل جاتا ہے۔ بندہ تھا، چاہئے تو تھا کہ بندگی میں لگا رہتا لیکن یہ تو رندگی کرنے لگا۔ اور آیت میں ہے اللہ نے انسان کو پانی سے بنا یا۔ اس کا نسب اور سر ایل قائم کیا اللہ قادر ہے۔ رب کے سوایاں کی پوچا کرنے لگے ہیں جو بے نفع اور بے ضرر ہیں، کافر کچھ اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ سورہ شیعین میں فرمایا کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تو بڑا ہی جھگڑا لوٹکلا۔ ہم پر بھی باقی میں بنا نے لگا اور اپنی پیدا اش بھول گیا۔ کہنے کا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی ﷺ ان سے کہہ دو کہ انہیں وہ خالق اکبر پیدا کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا۔ وہ تو ہر طرح کی مخلوق کی ہر طرح کی پیدا اش کا پورا عالم ہے۔ مندا احمد اور اہن ماج میں ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی بھتی پر تھوک کر فرمایا کہ جناب باری فرماتا ہے کہ اے انسان تو مجھے کیا عاجز کر سکتا ہے۔ میں نے تو تجھے اس تھوک جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔ جب تو زندگی پا گیا، تو مند ہو گیا، لباس مکان مل گیا تو تو لا کسی نہیں اور یہی راہ سے روکنے؟ اور جب دم گلے میں انکا تو تو کہنے لگا کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں۔ راہ اللہ دریت ہا ہوں۔ بس اب صدقے خیرات کا وقت نکل گیا۔

چوپائے اور انسان: ☆☆ (آیت: ۵-۷) جو چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں اور انسان ان سے فتفظ فائدے اٹھا رہا ہے، اس نعمت کو رب العالمین بیان فرمادیا ہے جیسے اونٹ، گائے، بکری۔ جس کا مفصل بیان سورہ الانعام کی آیت میں آٹھ قسموں سے کیا ہے۔ ان کے بال اون صوف وغیرہ کا گرم لباس اور جڑا اول نہیں ہے۔ دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ شام کو جب وہ چرچک کرو اپس آتے ہیں، بھری ہوئی کوکھوں والے بھرے ہوئے تھنوں والے، اونچی کوکھانوں والے کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں؟ اور جب چراگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ کیسے پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر تمہارے بھاری بھاری بوجہ ایک شہر سے شہر تک اپنی کمر پر لا دکر لے جاتے ہیں کہ تمہارا وہاں پہنچانا بغیر آدھی جان کے مشکل تھا۔ حج کے عمرے کے جہاد کے تجارت کے اور ایسے ہی اور سفر انہیں پر ہوتے ہیں، تمہیں لے جاتے ہیں۔ تمہارے بوجہ ڈھونتے ہیں۔ جیسے آیت وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِرْةً أُخْ میں ہے کہ یہ چوپائے جانور بھی تمہاری عبत کا باعث ہیں، ان کے پیٹ سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور ان سے بہت سے فائدے پہنچاتے ہیں۔ ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ ان پر سواریاں بھی کرتے ہو۔

سمندر کی سواری کے لئے کشتیاں ہم نے بنادی ہیں۔ اور آیت میں ہے اللہ الذی جعل لَكُمُ الْأَنْعَامَ اَلَّا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے چوپائے پیدا کئے ہیں کہ تم ان پر سواری کرو۔ انہیں کھاؤ، نفع اٹھاؤ، دلی حاجتیں پوری کرو اور تمہیں کشتیوں پر بھی سوار کرایا۔ اور بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ پس تم ہمارے کس کس نشان کا انکار کرو گے؟ یہاں بھی اپنی یہ نعمتیں جتا کر فرمایا کہ تمہارا وہ رب جس نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع بنادیا ہے، وہ تم پر بہت ہی شفقت و رحمت والا ہے۔ جیسے سورہ شیعین میں فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لئے اپنے ہاتھوں چوپائے بنائے اور انہیں ان کا مالک بنادیا اور انہیں ان کا مطیع بنادیا کہ بعض کو کھائیں۔ بعض پر سوار ہوں۔ اور آیت میں ہے وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامَ مَا تَرَكُبُونَ اس اللہ نے تمہارے لئے کشتیاں بنادیں اور چوپائے پیدا کر دیے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے رب کا فضل و شکر کرو اور کہو وہ پاک ہے جس نے انہیں ہمارا ماحت کر دیا حالانکہ ہم میں یہ طاقت نہ تھی۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم اسی کی جانب

لوئیں گے۔ دف کے معنی کپڑا اور منافع سے مراد کھانا پینا، نسل حاصل کرنا، سواری کرنا، گوشت کھانا، دودھ پینا ہے۔

وَالنَّحِيلَ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكِبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

گھوڑوں کو نچروں کو گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت ہی ہے۔ اور بھی وہ ایسی بہت چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ۰

سواری کے جانوروں کی حرمت: ☆☆☆ (آیت: ۸) اپنی ایک اور نعمت بیان فرمرا ہے کہ زینت کے لئے اور سواری کے لئے اس نے گھوڑے نے خچر اور گدھے پیدا کئے ہیں۔ بڑا مقصود ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ چونکہ انہیں اور چوپا یوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا، اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے جیسے امام ابو عینیہ اور ان کی موافقت کرنے والے فقہاء کہتے ہیں کہ خچر اور گدھے کے ساتھ گھوڑے کا ذکر ہے اور پہلے کے دونوں جانور حرام ہیں، اس لئے یہ بھی حرام ہوا چنانچہ خچر اور گدھے کی حرمت حدیثوں میں آئی ہے اور اگر علماء کا مذہب بھی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپا یوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں تو کھاتے ہو پس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان پر تم سواری کرتے ہو پس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ مند کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے گھوڑوں کے نچروں کے، اور گدھوں کے گوشت کو منع فرمایا ہے لیکن اس کے روایوں میں ایک رادی صالح بن یحییٰ مقدم ہیں جن میں کلام ہے۔

مند کی اور حدیث میں مقدم بن محدث بن محدث کرب سے منقول ہے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صائم کی جنگ میں تھے میرے پاس ہر سے ساتھی گوشت لائے مجھ سے ایک پتھر مانگا میں نے دیا۔ انہوں نے اس میں اسے باندھا میں نے کہا کہ ٹھہرو۔ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کر آؤں۔ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ وہ خیر میں تھے لوگوں نے یہودیوں کے کھیتوں پر جلدی کر دی، حضور ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں میں ندا کردوں کہ نماز کے لئے آجائیں اور مسلمانوں کے سوا کوئی نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں نے یہودیوں کے باغات میں گھسنے کی جلدی کی۔ سنو معاهدہ کامال بغیر حق کے حلال نہیں اور پالتو گدھوں کے اور گھوڑوں کے گوشت اور ہر ایک کچلیوں والا درندہ اور ہر ایک پنجے سے شکار کھلینے والا پرندہ حرام ہے۔ حضور ﷺ کی ممانعت یہودی گے باغات سے شاید اس وقت قبیل جب ان سے معاهدہ ہو گیا۔ پس اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو بے شک گھوڑے کی حرمت کے بارے میں تو نص تھی لیکن اس میں صحیحین کی حدیث کے مقابلے کی قوت نہیں جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پالتو گدھوں کے گوشت کو منع فرمادیا اور گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی۔ اور حدیث میں ہے کہ ہم نے خبر والے دن گھوڑے اور چرخ اور گدھے ہذجع کے توہین حضور ﷺ نے خچر اور گدھے کے گوشت سے تو منع کر دیا لیکن گھوڑے کے گوشت سے نہیں روکا۔

صحیح مسلم شریف میں حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ ہم نے مدینے میں حضرت ﷺ کی موجودگی میں گھوڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ پس یہ سب سے بڑی سب سے قوی اور سب سے زیادہ ثبوت والی حدیث ہے اور یہی مذہب جمہور علماء کا ہے۔ مالک، شافعی، احمد، ان کے سب ساتھی اور اکثر سلف و خلف یہی کہتے ہیں واللہ اعلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پہلے گھوڑوں میں وحشت اور جنگلی پن ہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے اسے مطیع کر دیا۔ وہہ بن اسرائیل روایتوں میں

بیان کیا ہے کہ جنوبی ہوا سے گھوڑے پیدا ہوتے ہیں واللہ عالم۔ ان تینوں جانوروں پر سواری لینے کا جائز ترقیات آن کے لفظوں سے ثابت ہے۔ حضور ﷺ کو ایک خچرہ ہے میں دیا گیا تھا جس پر آپ سواری کرتے تھے۔ ہاں یہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ گھوڑوں کو گدھوں سے ملایا جائے۔ یہ ممانعت اس لئے ہے کہ نسل منقطع نہ ہو جائے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے خچر لیں اور آپ اس پر سوار ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ کام وہ کرتے ہیں جو علم سے کوئے ہیں۔

وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّيِّلِ وَ مِنْهَا جَاءَ حَوْطٌ وَ لَوْ شَاءَ لَهُ دِكْمٌ
أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يُرِيدُ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ
وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الرِّزْعَ
وَ الْرِّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الشَّمَرِتِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

دریمانی راہ اللہ کی طرف پہنچو والی ہے اور نیز گی راہیں ہیں اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ پر لگادیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لئے آسان سے پانی بر ساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چلاتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لئے بھیتی اور زیتون اور بکھور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے دھیان دھرنے والے لوگوں کے لئے تو اس میں بڑا ہی نشان ہے۔

تقویٰ بہترین زاد را ہے: ☆☆ (آیت: ۹) دنیوی راہیں طے کرنے کے اسباب بیان فرمکر اب دینی راہ چلنے کے اسباب بیان فرماتا ہے۔ محسوسات سے معنویات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن میں اکثر بیانات اس قسم کے موجود ہیں۔ سفر حج کے لواہ کا ذکر کر کے تقویٰ کے تو شے کا جو آخرت میں کام دے بیان ہوا ہے۔ ظاہری بس کا ذکر فرمکر بس تقویٰ کی اچھائی بیان کی ہے۔ اسی طرح یہاں حیوانات سے دنیا کے کٹھن راستے اور دور دراز سفر طے ہونے کا بیان فرمکر آخرت کے راستے دینی راہیں بیان فرمائیں کہ حق راستہ اللہ سے ملانے والا ہے رب کی سیدھی راہ وہی ہے۔ اسی پر چلو۔ دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ بہک جاؤ گے اور سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ گے۔ فرمایا! میری طرف پہنچنے کی سیدھی راہ بھی ہے جو میں نے بتائی ہے۔ طریق حق جو اللہ سے ملانے والا ہے اللہ نے ظاہر کر دیا ہے اور وہ دین اسلام ہے جسے اللہ نے واضح کر دیا ہے اور ساتھ ہی دوسرے راستوں کی گمراہی بھی بیان فرمادی ہے۔ پس سچا راستہ ایک ہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ باقی اور راہیں غلط راہیں ہیں، حق سے الگ تھلک ہیں، لوگوں کی اپنی ایجاد ہیں جیسے یہودیت، نصرانیت، بھوپیت وغیرہ۔ پھر فرماتا ہے کہ ہدایت رب کے قبضے کی چیز ہے۔ اگر چاہے تو روئے زمین کے لوگوں کو نیک راہ پر لگادے، زمین کے تمام باشندے مومن بن جائیں، سب لوگ ایک ہی دین کے عامل ہو جائیں لیکن یہ اختلاف باقی ہی رہے گا مگر جس پر اللہ حرم فرمائے اسی کے لئے انہیں پیدا کیا ہے۔ تیرے رب کی بات پوری ہو کر ہی رہے گی کہ جہنم جنت انسان و جنات سے بھرجائے۔

تمہارے فائدوں کے سامان: ☆☆ (آیت: ۱۰-۱۱) چوپائے اور دوسرے جانوروں کی پیدائش کا احسان بیان فرمکر مزید احسانوں کا ذکر فرماتا ہے کہ اوپر سے پانی وہی بر ساتا ہے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور تمہارے فائدے کے جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میٹھا صاف شفاف، خوش گوارا جھنے ذائقے کا پانی تمہارے پینے کے کام آتا ہے۔ اس کا احسان نہ ہو تو وہ کھاری اور کڑوا بنا

دے۔ اسی آب باراں سے درخت اگتے ہیں اور وہ درخت تھا رے جانوروں کا چارہ بنتے ہیں۔ سوم کے معنی چلنے کے ہیں اسی وجہ سے اہل سائماں چلنے والے اونٹوں کو کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے سورج نکلنے سے پہلے چلانے کو منع فرمایا۔ پھر اس کی قدرت دیکھو کہ ایک ہی پانی سے مختلف مزے کے مختلف شکل و صورت کے مختلف خوبشوک طرح طرح کے پھل پھول وہ تھا رے لئے پیدا کرتا ہے پس یہ سب نشانیاں ایک شخص کو اللہ کی دحدانیت جاننے کے لئے کافی ہیں۔ اسی کا بیان اور آیتوں میں اس طرح ہوا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق بادلوں سے پانی بر سانے والا ان سے ہرے بھرے باغات پیدا کرنے والا جن کے پیدا کرنے سے تم عاجز تھے اللہ ہی ہے۔ اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں۔ پھر بھی لوگ حق سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔

وَسَحْرَ لَكُمُ الَّيَّالَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرُ وَالنُّجُومُ
مُسَخَّرٌ جِئْنَا بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعِقْلُونَ ۝
وَمَا ذَرَ أَكْمَمٌ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَّدَكَرُونَ ۝

اسی نے رات دن اور سورج چاند کو تھا رے کام میں لگا رکھا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ یقیناً اس میں ٹھنڈے لوگوں کے لئے کافی ایک نشانیاں موجود ہیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تھا رے لئے زمین میں پیدا کر کی ہیں، نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے تو اس میں بڑی
بھاری نشانی ہے ۰

سورج چاند کی گردش میں پوشیدہ فوائد: ☆☆ (آیت: ۱۲-۱۳) اللہ تعالیٰ اپنی اور نعمتیں یاد دلاتا ہے کہ دن رات برابر تھا رے فائدے کے لئے آتے جاتے ہیں۔ سورج چاند گردش میں ہیں ستارے چمک چمک کر تمہیں روشنی پہنچا رہے ہیں، ہر ایک کا ایک ایسا سمجھ اندازہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جس سے وہ نہ ادھر ادھر ہوں نہ تمہیں کوئی لقصان ہو، ہر ایک رب کی قدرت میں اور اس کے غلبے تھے ہے۔ اس نے چھومن میں آسمان زمین پیدا کیا۔ پھر عرش پر مستوی ہوا۔ دن رات برابر پے در پے آتے رہتے ہیں، سورج چاند ستارے اس کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خلق و امر کا مالک وہی ہے۔ وہ رب العالمین بڑی برکتوں والا ہے۔ جو سورج سمجھ رکھتا ہو، اس کے لئے تو اس میں قدرت و سلطنت الہی کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان آسمانی چیزوں کے بعد اب تم زمینی چیزیں دیکھو کہ حیوان، کائنات، نباتات، جمادات وغیرہ مختلف رنگ روپ کی چیزیں بے شمار فوائد کی چیزیں اسی نے تھا رے لئے زمین پر پیدا کر رکھی ہیں۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اور قدر کریں ان کے لئے تو یہ زبردست نشان ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَحَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا هِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ
مَوَاحِدَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۝ وَالْفَلَقُ
فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آنِ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَرَأَقَ سُبْلًا

لَعَلَّكُمْ تَهتَدُونَ لِنَّهُ وَعَلِمْتُ وَبِالْقَرْآنِ هُمْ يَهتَدُونَ^{۱۵}
أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ^{۱۶} وَإِنْ
تَعْذُّدُ وَانْعَمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا^{۱۷} إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ^{۱۸}

دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیئے ہیں کہ تم اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پینچے کے زیورات نکال سکو تو آپ دیکھے کہ کشتیاں اس میں پانی چیزیں ہوئی ہیں اور اس لئے بھی کہ تم اس کا فضل علاش کرو اور ہو ملکا ہے کہ تم شکر گاری بھی کرو○ اسی نے زمین میں پھاڑ گاڑ دیے ہیں تا کہ تمہیں ہلاکتے اور نہیں اور راہیں بنادیں تا کہ تم منزل مقسومہ کو پہنچو○ اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں○ تو کیا وہ جو پیدا کرنے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم پاکل نہیں سوچتے؟○ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی گفتگی کرنا چاہو تو تم اسے بھی پورا نہیں کر سکتے بے شک اللہ جنت و الامراں ہے○

اللہ کے انعامات: ☆☆ (آیت ۱۸-۱۹) اللہ تعالیٰ اپنی اور مہربانی جتنا ہے کہ سمندر پر دریا پر بھی اس نے تمہیں قابض کر دیا، باوجود اپنی گہرائی کے اور اپنی موجودوں کے وہ تمہارا تابع ہے، تمہاری کشتیاں اس میں چلتی ہیں۔ اسی طرح اس میں سے محچلیاں نکال کر ان کے تردید اسے گوشت تم کھاتے ہو۔ محچلی حلت کی حالت میں، احرام کی حالت میں، زندہ ہو یا مردہ ہو، اللہ کی طرف سے حلال ہے۔ الو اور جواہر اس نے تمہارے لئے اس میں پیدا کئے ہیں جنہیں تم سہولت سے نکال لیتے ہو اور بطور زیور کے اپنے کام میں لیتے ہو۔ پھر اس میں کشتیاں ہواؤں کو ہٹاتی، پانی کو چیزیں اپنے سینوں کے بل تیرتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ انہی کو کشتی بنا نا رہ عالم نے سکھایا، پھر لوگ برابر بناتے چلے آئے اور ان پر دریا کے لمبے سفر طے ہونے لگے، اس پار کی چیزیں اس پار اور اس پار کی اس پار آنے جائے لگیں۔ اسی کا بیان اس میں ہے کہ تم اللہ کا فضل یعنی اپنی روزی تجارت کے ذریعہ ڈھونڈو۔ اور اس کی نعمت و احسان کا شکر یا نو اور قدر دانی کرو۔ مند بزار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغربی دریا سے کہا کہ میں اپنے بندوں کو تجھ میں سوار کرنے والا ہوں، تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہنا، ڈبودوں گا، فرمایا، تیری تیزی تیرے کناروں پر ہے اور انہیں میں اپنے ہاتھ میں لے چلوں گا۔ تجھے میں نے زیور اور شکار سے محروم کیا۔

پھر مشرقی سمندر سے یہی بات کہی، اس نے کہا، میں اپنے ہاتھوں پر انہیں اٹھاؤں گا اور جس طرح ماں اپنے بچے کی خبر گیری کرتی ہے میں ان کی کرتار ہوں گا۔ پس اسے اللہ تعالیٰ نے زیور بھی دیئے اور شکار بھی۔ اس حدیث کا روایت صرف عبد الرحمن بن عبد اللہ ہے اور وہ منکر الحدیث ہے۔ عبد اللہ بن عمرو سے بھی یہ روایت موقوف امر وی ہے۔ اس کے بعد زمین کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے ٹھہرائے اور ملنے جلنے سے بچانے کے لئے اس پر مضبوط اور زمینی پھاڑ جمادی یے کہ اس کے ملنے کی وجہ سے اس پر رہنے والوں کی زندگی دشوار نہ ہو جائے۔ جیسے فرمان ہے وَالْجَبَالَ أَرْسَلَهَا حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ مل رہی تھی یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا، اس پر تو کوئی ٹھہری نہیں سکتا۔ منجع دیکھتے ہیں کہ پھاڑ اس پر گاڑ دیئے گئے ہیں اور اس کا پہنا موقوف ہو گیا۔ پس فرشتوں کو یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ پھاڑ کس چیز سے پیدا کئے گئے۔ قیس بن عبادہ سے بھی یہی مردی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین نے کہا، تو مجھ پر بنی آدم کو بساتا ہے جو میری پیٹھ پر گناہ کریں گے اور خباثت پھیلائیں گے۔ وہ کاپنے لگی۔

پس اللہ تعالیٰ نے پھاڑ کو اس پر جمادیا جھیں تم دیکھ رہے ہو اور بعض کو دیکھتے ہی نہیں ہو۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے نہیں جسٹے

اور دریاچاروں طرف بھادیئے کوئی تیز ہے، کوئی مندا، کوئی لمبا ہے، کوئی مختصر، کبھی کم پانی ہے، کبھی زیادہ، کبھی بالکل سوکھا پڑا ہے۔ پہاڑوں پر جنگلوں میں ریت میں پھروں میں برابر یہ جوشے بہتے رہتے ہیں اور میل پیل کر دیتے ہیں۔ یہ سب اس کا فضل و کرم، الطف و رحم ہے۔ نہ اس کے سوا کوئی پروردگار نہ اس کے سوا کوئی لاائق عبادت وہی رب ہے۔ وہی معبدوں ہے، اسی نے راستے بنادیے ہیں، خشکی میں، تری میں، پہاڑ میں، جنگل میں، بستی میں، اجڑی میں، ہر جگہ اس کے فضل و کرم سے راستے موجود ہیں کہ ادھر سے ادھر لوگ جاؤ سکیں۔ کوئی بھک راستے ہے، کوئی وسیع، کوئی آسان کوئی سخت۔ اور بھی علامتیں اس نے مقرر کر دیں جیسے پہاڑ ہیں، میلے ہیں، غیرہ وغیرہ۔ جن سے تری خشکی کے ہر و مسافر را معلوم کر لیتے ہیں۔ اور بھکے ہوئے سیدھے رستے لگ جاتے ہیں۔ ستارے بھی رہنمائی کے لئے ہیں۔ رات کے اندر ہیرے میں انہی سے راستہ اور مست معلوم ہوتی ہے۔ مالک سے مردی ہے کہ جنم سے مراد پہاڑ ہیں۔ پھر اپنی عظمت و کبریائی کا بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ لاائق عبادت اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ کے سوا جن جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ محض بے بس ہیں۔ کسی چیز کے پیدا کرنے کی انہیں طاقت نہیں اور اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق اور غیر خالق یکساں نہیں۔ پھر دونوں کی عبادت کرنا کس قدر ستم ہے؟ اتنا بھی بے ہوش ہو جانا شایان انسانیت نہیں۔

پھر اپنی نعمتوں کی فراوانی اور کثرت بیان فرماتا ہے کہ تمہاری گنتی میں بھی نہیں آسکتیں، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں، یہ بھی تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ میری نعمتوں کی گنتی کر سکو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگز فرماتا رہتا ہے۔ اگر اپنی تمام تر نعمتوں کا شکر بھی تم سے طلب کرے تو تمہارے بس کا نہیں۔ اگر ان نعمتوں کے بد لئے تم سے چاہے تو تمہاری طاقت سے خارج ہے۔ سنو اگر وہ تم سب کو عذاب کرے تو بھی وہ ظالم نہیں لیکن وہ غفور و حیم اللہ تمہاری برا سیوں کو معاف فرمادیتا ہے، تمہاری تقصیروں سے تجاوز کر لیتا ہے۔ تو بہ رجوع، اطاعت اور طلب رضامندی کے ساتھ جو گناہ ہو جائیں، ان سے جسم پوشی کر لیتا ہے۔ بڑا ہی حرم ہے، توبہ کے بعد عذاب نہیں کرتا۔

وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرِفُنَ وَ مَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٢﴾
آمَوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٌ وَ مَا يَشْرُونَ لَا آيَانَ يُبَعْثُرُونَ ﴿٢٣﴾

جو کچھ تم چھپا اور جو ظاہر کرہا اللہ سب کچھ جانتا ہے ۰ جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سو اپنکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں ۰ مردے ہیں۔ زندہ نہیں انھیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اخانے جائیں گے ۰

اللہ خالق کل: ☆☆ (آیت: ۱۹-۲۱) چھپا کھلا سب کچھ اللہ جانتا ہے، دونوں اس پر یکساں۔ ہر عامل کو اس کے عمل کا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ نیکوں کو جزا بدوں کو سزا۔ جن معبدوں ان باطل سے لوگ اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ جیسے کہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ آتَيْدُونَ مَا تَحْمِلُونَ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْلَمُونَ تم انہیں پوچھتے ہو جنمیں خود ہباتے ہو۔ درحقیقت تمہارا اور تمہارے کاموں کا خالق صرف اللہ جبار و تعالیٰ ہے۔ بلکہ تمہارے معبدوں جو اللہ کے سوا بھادرات بے روح چیزوں سنتے سیکھتے اور شعور نہیں رکھتے، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب ہوگی؟ تو ان سے نفع کی امید اور ثواب کی توقع کیسے رکھتے ہو؟ یہ امید تو اس اللہ سے ہوئی چاہئے جو ہر چیز کا عالم اور تمام کائنات کا خالق ہے۔

**إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُّهُمْ مَا
مُنْكِرٌ وَهُمْ مُسْتَكِبُرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
يُسْرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِبُرِينَ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا
أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلَوْنَهُمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ**

تم سب کا معہود صرف اللہ اکیلا ہے آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل مکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں ॥ بے شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو نہیں چھپائیں اور نہیں ظاہر کریں۔ بخوبی جانتا ہے وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ॥ ان سے جب دریافت کیا جائے کہ تمہارے پروگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو جواب دینے ہیں۔ اگلوں کی کہانیاں ہیں ॥ اسی کا نتیجہ ہو گا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے ڈیکھو تو کیسا براؤ جو محشر ہے ہیں؟ ॥

(آیت: ۲۲-۲۳) اللہ ہی معبد و بحق ہے، اس کے سوا کوئی لاائق عبادت نہیں، وہ واحد ہے، احاد ہے، صد ہے۔ کافروں کے دل بھلی بات سے انکار کرتے ہیں۔ وہ اس حق کلمے کوں کر سخت حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ واحد کا ذکر سن کر ان کے دل مر جما جاتے ہیں۔ ہاں اور وہ کا ذکر ہو تو کھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت سے مغور ہیں۔ نہ ان کے دل میں ایمان نہ عبادت کے عادی۔ ایسے لوگ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ یقیناً خدا نے تعالیٰ ہر چھپے کھلے کا عالم ہے ہر عمل پر جزا اور سزا دے گا۔ وہ مغورو لوگوں سے بے زار ہے۔

قرآن حکیم کے ارشادات کو دیرینہ کہنا کفر کی علامت ہے: ☆☆ (آیت: ۲۳-۲۴) ان مکرین قرآن سے جب سوال کیا جائے کہ کلام اللہ میں کیا نازل ہوا تو اصل جواب سے ہٹ کر بک دیتے ہیں کہ سوائے گزرے ہوئے افسانوں کے کیا کھا ہے؟ وہی لکھ لئے ہیں اور صبح شام دہرا رہے ہیں۔ پس رسول ﷺ پر افترا باندھتے ہیں۔ کبھی کچھ کہتے ہیں۔ کبھی اس کے خلاف اور کچھ کہنے لگتے ہیں۔ دراصل کسی بات پر جسم ہی نہیں سکتے اور یہ بہت برقی دلیل ہے ان کے تمام اقوال کے باطل ہونے کی۔ ہر ایک جو حق سے ہٹ جائے وہ یونی ما راما را بہکا بہکا پھرتا ہے۔ کبھی حضور ﷺ کو جادوگر کہتے، کبھی شاعر، کبھی کامن، کبھی مجنوں۔ پھر ان کے بدھے گروہ لید بن مغیرہ مخدومی نے انہیں بڑے غور و خوض کے بعد کہا کہ سب میں کراس کلام کو موثر جادو کہا کرو۔ ان کے اس قول کا نتیجہ بدھو گا اور ہم نے انہیں اس راہ پر اس لئے لگا دیا ہے کہ یہ اپنے پورے گناہوں کے ساتھ ان کے بھی کچھ گناہ اپنے اور پرلا دیں جوان کے مقابلہ ہیں اور ان کے پیچے پیچے چل رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ہذا بیت کی دعوت دینے والے کو اپنے اجر کے ساتھ اپنے تبع لوگوں کا اجر بھی ملتا ہے لیکن ان کے اجر کم نہیں ہوتے اور برائی کی طرف بلانے والوں کو ان کی ماننے والوں کے گناہ بھی ملتے ہیں لیکن ماننے والوں کے گناہ کم ہو کر نہیں۔ قرآن کریم کی اور آیت میں ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ لَنْ يَأْتِيَنَّ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہی ساتھ اور بوجھ بھی الھائیں گے اور ان کے افترا کا سوال ان سے قیامت کے دن ہونا ضروری ہے۔ پس ماننے والوں کے بوجھ گواں کی گردنوں پر ہیں لیکن وہ بھی ہلکے نہیں ہوں گے۔

**قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنْ
الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَثْبَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْخِزُهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ
شَرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخَرْقَ الْيَوْمَ وَالشَّوَّءَ عَلَى الْكُفَّارِيْنَ ﴿١٣﴾**

ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ آخوند حکم اللہ ان کی عمارتوں کی جزوں سے بچنا اور ان کے سروں پر ان کی چھپیں اور پسے گر پڑیں اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آگیا جہاں کا انھیں خواب و خیال بھی نہ تھا ۱۰ پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انھیں رسوائے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے مجھ تر رہتے تھے؟ جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ جواب دیں گے کہ آج تو کافروں کو رسائی اور برائی چھٹ گئی ۱۰

نمرود کا تذکرہ: ☆☆ (آیت: ۲۶-۲۷) بعض تو کہتے ہیں اس مکار سے مراد نہ رہے ہے جس نے بالا خانہ تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے سب سے بڑی سرکشی اسی نے زمین میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کو ایک مچھر بھیجا جو اس کے نتھیں میں گھس گیا اور چار سو سال تک اس کا بھیجا چاتار ہا، اس مدت میں اسے اس وقت قدر سے سکون معلوم ہوتا تھا جب اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں، خوب دونوں ہاتھوں کے زور سے اس کے سر پر ہتھوڑے پڑتے رہتے تھے۔ اس نے چار سو سال تک سلطنت بھی کی تھی اور خوب فساد پھیلایا تھا۔ بعض کہتے ہیں، اس سے مراد بخت نصر ہے۔ یہ بھی بڑا مکار تھا لیکن اللہ کو کوئی کیا لقصان پہنچا سکتا ہے؟ گواں کا مکر پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا دینے والا ہو۔ بعض کہتے ہیں، یہ تو کافروں اور مشرکوں نے اللہ کے ساتھ جو غیروں کی عبادت کی، ان کے عمل کی بربادی کی مثال ہے جیسے نوح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ان کافروں نے بڑا ہی مکر کیا، ہر حیلے سے لوگوں کو گمراہ کیا، ہر وسیلے سے انہیں شرک پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ان کے چیلے قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہ تمہارا رات دن کا مکر کہ ہم سے کفر و شرک کے لیے کہنا۔ ۱۱

ان کی عمارت کی جڑ اور بنیاد سے عذاب الہی آیا یعنی بالکل ہی کھو دیا۔ اصل سے کاث دیا جیسے فرمان ہے جب لا ای کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بچا دیتا ہے۔ اور فرمان ہے ان کے پاس اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں کا انہیں خیال بھی نہ تھا، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنے مکانات تباہ کرنے لگے اور دوسرا جانب سے مومنوں کے ہاتھوں میں عقل مندا عبرت حاصل کرو۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کا عذاب ان کی عمارت کے نیچے تلے سے آگیا اور ان پر اور پسے چھٹ آپڑی اور نادانستہ جگہ سے ان پر عذاب اتر آیا۔ قیامت کے دن کی رسائی اور فضیحت ایسی باقی ہے۔ اس وقت چھپا ہوا سب کھل جائے گا۔ اندر کا سب باہر آ جائے گا۔ سارا معاملہ طشت از بام ہو جائے گا۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں، ہر غدار کے لئے اس کے پاس ہی جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جو اس کے غدر کے مطابق ہو گا۔ اور مشہور کردیا جائے گا کہ فلاں کا یہ غدر ہے جو فلاں کا لڑا کا تھا۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی میدان محشر میں سب کے سامنے رسوائی کیا جائے گا۔ ان سے ان کا پروردگار ڈانت ڈپٹ کر دیا فافت فرمائے گا کہ جن کی حمایت میں تم میرے بندوں سے لمحتھ رہتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ تمہاری مد و کبوٹ نہیں کرتے؟ آج بے یار و مددگار کیوں ہو؟ یہ چپ ہو جائیں گے کیا جواب دیں؟ لا چار ہو جائیں گے کون سی جھوٹی دلیل پیش کریں؟ اس وقت علماء کرام جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے اور مخلوق کے پاس عزت رکھتے ہیں، جواب دیں گے کہ رسائی اور عذاب آج

کافروں کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کے معبدوں باطل ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

**الَّذِينَ تَتَوَقَّفُهُمُ الْمَلِكَةُ ظَالِمٰتِي أَنفُسُهُمْ فَأَلْقُوا
السَّلَمَ مَا كُنْتَمْ تَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلِئِسَ
مَثْوَيَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٣٠﴾**

یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگے اس وقت انہوں نے صلح کی بات ڈالی کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے کیون نہیں؟ اللہ خوب جانے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے ۰ پس اب تو یہیکی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں سے جہنم میں جاؤ سوکیا ہی برائی کا نہ ہے غرور کرنے والوں کا ۰

بشر کیں کی جان کنی کا عالم: ☆☆ (آیت: ۲۹-۳۰) مشرکین کی جان کنی کے وقت کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جب فرشتے ان کی جان لینے کے لئے آتے ہیں تو یہ اس وقت سننے عمل کرنے اور مان لینے کا اقرار کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے کرتوت چھپاتے ہوئے اپنی بے گناہی بیان کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھا کر اپنا مشرک نہ ہونا بیان کریں گے۔ جس طرح دنیا میں اپنی بے گناہی پر لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے انہیں جواب ملے گا کہ جھوٹے ہو بُد اعمالیاں جی کھول کر کر چکے ہو اللہ غافل نہیں جوابوں میں آجائے۔ ہر ایک عمل اس پر روشن ہے۔ اب اپنے کرتوتوں کا غمیزہ بھگتو اور جہنم کے دروازوں سے جا کر ہمیشہ اسی بری جگہ میں پڑے رہو۔ مقام برا، مکان برا، ذلت و رسوانی والا اللہ کی آنکھوں سے تکبر کرنے کا اور اس کے رسولوں کی اتباع سے جی چانے کا بھی بدله ہے۔ مرتبہ ہی ان کی رو جیں جہنم رسید ہوئیں اور جسموں پر قبروں میں جہنم کی گرمی اور اس کی لپک آنے لگی۔ قیامت کے دن رو جیں جسموں سے مل کر نار جہنم میں گئیں۔ اب نہ موت نہ تخفیف۔ جیسے فرمان باری ہے النَّارُ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا لَنْ يَدْوَرُ خَلِيلُكَ لَكَ آگ کے سامنے ہر رُجُع شام لائے جاتے ہیں۔ قیامت کے قائم ہوتے ہی اے آل فرعون تم سخت تر عذاب میں چلے جاؤ۔

**وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوا مَا ذَرَّ أَنْزَلَ رَبِّكُمْ قَالُوا حَيْرًا لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ
دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ جَنَّتُ عَدِينَ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٢﴾
الَّذِينَ تَتَوَقَّفُهُمُ الْمَلِكَةُ طَيِّبِينَ لَا يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾**

پرہیزگاروں سے پوچھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بازل فرمایا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لئے اس دنیا میں بھلائی ہے اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے ۰ یہیکی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں لہریں لے

رسی ہیں۔ جو کچھ یہ طلب کریں وہاں ان کے لئے موجود ہے پر ہیز کاروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلتے عطا فرماتا ہے ۰ ان کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں۔ کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جاذب جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلتے جو تم کرتے تھے ۰

متقیوں کے لئے بہترین جزا: ☆☆ (آیت: ۳۰-۳۲) بروں کے حالات بیان فرمائیں گے کہ حالات جوان کے بالکل برعکس ہیں؛ بیان فرمارہا ہے۔ برے لوگوں کا جواب تو یہ تھا کہ اللہ کی انتاری ہوئی کتاب صرف گزرے لوگوں کے افسانے کی نقل ہے لیکن یہ نیک لوگ جواب دیتے ہیں کہ وہ سراسر برکت درحمت ہے۔ جو بھی اسے مانے اور اس پر عمل کرئے وہ برکت درحمت سے مالا مال ہو جائے۔ پھر خبر دیتا ہے کہ میں اپنے رسولوں سے وعدہ کر چکا ہوں کہ نیکوں کو دونوں جہان کی خوشی حاصل ہوگی۔ جیسے فرمان ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے خواہ مرد ہو خواہ عورت۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ مومن ہوتا ہم اسے بڑی پاک زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے بہترین اعمال کا بدلہ بھی ضرور دیں گے۔ دونوں جہان میں وہ جزا پائے گا۔ یاد رہے کہ دار آخوت دار دنیا سے بہت ہی افضل و احسن ہے۔ ہاں کی جزانہایت اعلیٰ اور داعی ہے جیسے قارون کے مال کی تھنا کرنے والوں سے علماء کرام نے فرمایا تھا کہ ثواب الہی بہتر ہے اخ، قرآن فرماتا ہے وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلَاٰ بُرَارِ اللّٰہِ کے پاس کی چیزیں نیک کاروں کے لئے بہت اعلیٰ ہیں۔ اور جگہ ہے آخوت خیر اور باقی ہے۔ اپنے بنی آدم سے خطاب کر کے فرمایا تیرے لئے آخوت دنیا سے اعلیٰ ہے۔ پھر فرماتا ہے، دار آخوت متقیوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے۔ حنث عدن بدل ہے دار المتقین کا یعنی ان کے لئے آخوت میں جنت عدن ہے جہاں وہ رہیں گے جس کے درختوں اور محلوں کے نیچے سے برادر جنمیں ہر وقت جاری ہیں، جو چاہیں گے پائیں گے۔

حدیث میں ہے، اہل جنت بیٹھے ہوں گے، سر پر ابر اٹھے گا اور جو خواہش یہ کریں گے، وہ ان کو عطا کرے گا یہاں تک کہ کوئی کہے گا، آنکھوں کی ہر ہٹنڈک موجود ہوگی اور وہ بھی ہیئتی دالی۔ اس کو ہم عمر کنوار یاں میں تو یہ بھی ہو گا۔ پر ہیز کار، تقویٰ شعار لوگوں کے بدلتے اللہ ایسے ہی دیتا ہے جو ایمان دار ہوں، ڈرنے والے ہوں اور نیک عمل ہوں۔ ان کے انتقال کے وقت یہ شرک کی گندگی سے پاک ہوتے ہی فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ جیسے فرمان عالیٰ شان ہے اَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبِّنَا اللّٰهَ أَخْجُونَ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا، پھر اس پر تھے رہے، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، تم کوئی غم نہ کرو جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ تھا، ہم دنیا و آخوت میں تمہارے والی ہیں، جو تم چاہو گے، پاؤ گے، جوما گنو گے ملے گا۔ تم تو اللہ غفور و رحيم کے مہمان ہو۔ اس مضمون کی حدیثیں ہم آیت یُبَشِّرُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُوْلِ الثَّابِتِ اَخْجُونَ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

۱۸

**هَلْ يَنْظَرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمُهُمُ اللّٰهُ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ ۝**

کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم آجائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جوان سے پہلے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ۰ پس ان کے برے اعمال کے نتیجے انھیں مل گئے۔ اور جس کی بھی اڑاتے تھے وہ ان پر

فرشتوں کا انتظار: ☆☆ (آیت: ۳۲-۳۳) اللہ جبار کو دعا منتہ ہوئے فرماتا ہے کہ تم قرآن فرشتوں کا انتظار ہے جوان کی روح قبض کرنے کے لئے آئیں گے۔ یا قیامت کا انتظار ہے اور اس کے افعال و احوال کا۔ ان جیسے ان سے پہلے کے مشرکین کا بھی یہی وطیرہ رہا یہاں تک کہ ان پر عذاب الہم آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت پوری کر کے ان کے مذر ختم کر کے، تباہ کر رسول مجیع کر پھر بھی ان کے انکار کی شدت کے بعد ان پر عذاب اتا رے۔ اللہ کے رسولوں کی دھمکیوں کو مذاق میں اڑانے کے دہان میں گمراہ کئے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا بکار لیا۔ اسی لئے ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے تم جھلاتے رہے۔

**وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ
مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فِيمَنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ
وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَيِّرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصُ عَلَى هُدَيْهِمْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرٍ**

مشکل لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادے اس کے سوا کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے نہ اس کے فرمان کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے، یہی فعل ان سے پہلے کے لوگوں کا رہا تو رسولوں پر تو صرف کلم کلام لکھا پیغام کا پہنچا دیا ہے ۰ ہم نے ہر امت میں رسول میجا کر لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے سوا کے تمام معبدوں سے بچوں پلچر لپٹوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر کراہی ثابت ہو چکی، تم آپ زمین میں چل پھر کر دیکھو لو کہ جھلانے والوں کا انعام کیسا ہوا؟ ۰ گوئاں کی ہدایت کالا چیز رہ لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے گمراہ کر دے اور نہ ان کو کوئی مدد کروتا ہے۔

اثی سوچ: ☆☆ (آیت: ۳۴-۳۵) مشرکوں کی الٹی سوچ دیکھئے۔ گناہ کریں، شرک پر اڑیں، حلال کو حرام کریں، جیسے جانوروں کو اپنے خداوں کے نام سے منسوب کرنا اور تقدیر کو محنت بنائیں اور کہیں کہ اگر اللہ کو ہمارے اور ہمارے بڑوں کے یہ کام برے لکھتے تو ہمیں اسی وقت سزا ملتی۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا دستور نہیں، ہمیں تھاہر ہے یہ کام سخت ناپسند ہیں اور ان کی ناپسندیدگی کا اظہار ہم اپنے سچے غیربروں کی زبانی کر چکے۔ سخت تاکیدی طور پر تمہیں ان سے روک چکے، ہربتی میں ہر جماعت، ہر شہر میں اپنے پیغام بریجیع سب نے اپنا فرض ادا کیا۔ بندگان رب میں اللہ کے احکام کی تبلیغ صاف صاف کر دی۔ سب سے کہہ دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا دوسرا کو نہ پوچھ جو سب سے پہلے جب شرک کا ظہور زمین پر ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خلعت نبوت دے کر بھیجا اور سب سے آخر ختم المرسلین کا القب دے کر رحمۃ اللہ علیم کو اپنا نبی بنایا جن کی دعوت تمام جن و انس کے لئے زمین کے اس کوئے تک تھی جیسے فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُونِ يعنی تجھے سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف وی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی اور معبد و نہیں۔ پہلے تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ ایک اور آیت میں ہے تو اپنے سے پہلے کے رسولوں سے پوچھ لے کہ کیا ہم نے ان کے لئے سوائے اپنے اور معبد و مقرر کئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے ہوں؟ یہاں بھی فرمایا، ہرامت کے رسولوں کی دعوت تو حیدر کی تعلیم اور شرک سے بے زاری ہی رہی۔ پس مشرکین کو اپنے شرک پر اللہ کی چاہت، اس کی شریعت سے معلوم ہوتی ہے اور وہ ابتدائی سے شرک کی نفع کنی اور تو حیدر کی مضبوطی کی ہے۔ تمام رسولوں کی زبانی اس نے یہی پیغام بھیجا۔ ہاں انہیں شرک کرتے ہوئے چھوڑ دیتا یا اور بات ہے جو قابل جلت نہیں۔ اللہ نے جہنم اور جہنمی بھی تو بنائے ہیں۔ شیطان کافر سب اسی کے پیارا کئے ہوئے ہیں اور اپنے بندوں سے ان کے کفر پر راضی نہیں۔ اس میں بھی اس کی حکمت تامة اور جلت بالغ ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ رسولوں کے آگاہ کر دینے کے بعد دنیاوی سزا میں بھی کافروں اور مشرکوں پر آئیں۔ بعض کو ہدایت بھی ہوتی۔ بعض اپنی گمراہی میں ہی لکھتے رہے۔ تم رسولوں کے خالقین کا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا انعام زمین میں چل پھر کر آپ دیکھ لو۔ گرشنہ و اعقات کا جہنمیں علم ہے اُن سے دریافت کر لو کہ کس طرح عذاب الہی نے مشرکوں کو غارت کیا۔ اس وقت کے کافروں کے لئے ان کا فارس میں مثالیں اور عبرت موجود ہے۔ دیکھ لوان کارب کا نتیجہ کتنا ہمہلک ہوا؟۔ پھر اپنے رسول ﷺ سے رسول ﷺ کے فرماتا ہے کہ گوآپ ان کی ہدایت کے کیسے ہی حریص ہوں یکن بے فائدہ ہے۔ رب ان کی گراہیوں کی وجہ سے انہیں در رحمت سے دور ڈال چکا ہے۔ جیسے فرمان ہے وَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے تو اسے کچھ بھی تو نعمتیں پہنچا سکتا۔

حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اگر اللہ کا ارادہ تمہیں بہکانے کا ہے تو میری نصیحت اور خیر خواہی تھہارے لئے محض نہیں سود ہے۔ اس آیت میں بھی فرماتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بھکاؤے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہ تو دن بدن اپنی سر کشی اور بہکاؤے میں بڑھتے رہتے ہیں۔ فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ جِنَّ پر تیرے رب کی بات ثابت ہو جکی ہے، انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا۔ گوتمان شانیاں ان کے پاس آ جائیں یہاں تک کہ عذاب الیم کا منہ دیکھ لیں۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی شان، اس کا امر۔ اس لئے کہ جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے۔ جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ پس فرماتا ہے کہ وہ اپنے گمراہ کئے ہوئے کوراہ نہیں دکھاتا۔ نہ کوئی اور اس کی رہبری کر سکتا ہے نہ کوئی اس کی مدد کے لئے اٹھ سکتا ہے کہ عذاب الہی سے بچا سکے۔ خلق دا مرالہ تعالیٰ کا ہے وہ رب العالمین ہے اس کی ذات با برکت ہے وہی سچا معبود ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمْوَتْ بَلِّي وَعْدًا
عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لَهُ لِيُبَيِّنَ
لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا
كَذِيلِينَ لَهُمْ أَنَّمَا قَوْلُنَا لِشَفَىٰ إِذَا أَرَدْنَاهُمْ آتَنَّ نِقْوَلَ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

۵

بڑی سخت نتیجیں کام کا کر کتے ہیں کہ مردوں کو اللہ زندہ نہیں کرے گا، ہاں ضرور زندہ کرے گا۔ یہ تو اس کا برق لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ بے علمی کر رہے ہیں۔ اس لئے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالیٰ صاف کر دے اور اس لئے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لیں ۰ ہم جب کسی چیز کا

ارادہ کریں تو صرف ہماری یک دنیا ہوتا ہے کہ ہو جا۔ پس وہ ہو جاتی ہے ۰

قیامت یقیناً قائم ہوگی: ☆☆ (آیت: ۳۰-۳۸) چونکہ کافر قیامت کے قائل نہیں اس لئے دوسروں کو بھی اس عقیدے سے ہٹانے کے لئے وہ پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایمان فروشی کرنے کے اللہ کی تائیدی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ برق ہے لیکن اکثر لوگ بوجا پی جہالت اور لا علیٰ کے رسولوں کا خلاف کرتے ہیں اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے اور کفر کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ پھر قیامت کے آئے اور جسموں کے دوبارہ زندہ ہونے کی بعض حکمتیں ظاہر فرماتا ہے جن میں سے ایک یہ ہے کہ جائے۔ اس وقت سب دیکھ لیں گے کہ انہیں دلکے دے کر جہنم میں جمونا کا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے رہے اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تم انہے ہو؟ اس میں اب پڑے رہو۔ صبر سے رہو یا ہائے وائے کردی سب برابر ہے۔ اعمال کا بدلہ بھگنا ضروری ہے۔

**وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوَّثُنَّهُمْ
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا كِجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٠﴾**

جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد راہ اللہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم اُسیں بہتر سے بہتر عکا دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کر لوگ اس سے واقف ہوئے ۰ جمتوں نے داس ہر من چھوڑا اور اپنے پالنے والے پر ہی بھروسہ کرتے رہے ۰

اللہ ہر چیز پر قادر ہے: ☆☆ (آیت: ۳۱-۳۲) پھر اپنی بے اندازہ قدرت کا بیان فرماتا ہے کہ جو وہ چاہے اس پر قادر ہے۔ کوئی بات اسے عاجز نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے اختیار سے خارج نہیں، وہ جو کرنا چاہے فرمادیتا ہے کہ ہو جا، اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے۔ قیامت بھی اس کے فرمان کا عمل ہے۔ جیسے فرمایا، ایک آنکھ جھپکنے میں اس کا کہا ہو جائے گا، تم سب کا پیدا کرنا اور مرنے کے بعد زندہ کر دینا اس پر ایسا یہ ہے جیسے ایک کو ادھر کہا، ہو جا، ادھر ہو گیا۔ اس کو دوبارہ کہنے یا تاکید کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے ارادہ سے مدد جدا نہیں۔ کوئی نہیں جو اس کا خلاف کر سکے۔ اس کے حکم کے خلاف زبان ہلا کسکے۔ وہ واحد و تھار ہے وہ عظیموں اور عزیزوں والا ہے، سلطنت اور جرودت والا ہے۔ اس کے سوانح کوئی معبدو نہ حاکم نہ رب نہ قادر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے اسے ایسا نہیں چاہئے تھا۔ وہ مجھے جھلکا رہا ہے حالانکہ یہ بھی اسے لائق نہ تھا۔ اس کا جھلکانا تو یہ ہے کہ سخت قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ اللہ مردوں کو پھر زندہ نہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں، یقیناً زندہ ہوں گے۔ یہ برق وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور اس کا مجھے گالیاں دیتا ہے کہ کہتا ہے اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ میں احمد ہوں، میں اللہ ہوں، میں صمد ہوں، جس کا ہم جنس کوئی اور نہیں۔ ابن ابی حاتم میں تو یہ حدیث موقوفاً مروی ہے۔ صحیحین میں دوسرے لفظوں کے ساتھ مرفو غارو ایت بھی آئی ہے۔

دین کی پاسبانی میں بھرت: ☆☆ جو لوگ راہ اللہ میں ترک وطن کر کے دوست احباب رشتے، کنبے تجارت کو اللہ کے نام پر ترک کر کے دین ربانی کی پاسبانی میں بھرت کر جاتے ہیں، ان کے اجر بیان ہو رہے ہیں کہ دونوں جہان میں یہ اللہ کے ہاں معزز و محترم ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ سبب نزول اس کا ہما جرین جس ہوں جو کئے میں مشرکین کی سخت ایذا میں سببے کے بعد بھرت کر کے جسٹھ چلے گئے کہ آزادی سے دین حق پر عامل رہیں۔ ان کے بہترین لوگ یہ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صالحہ حضرت رقیہ

رضی اللہ عنہا بھی تھیں جو رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی تھیں اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت ابو جبل بن عبد اللہ دری اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ قریب قریب اسی آدمی تھے مزدھی بھی عورتیں بھی جو سب صدیقین اور صدیقات تھے اللہ ان سب سے خوش ہوا ورنہ نہیں بھی خوش رکھے۔

پس اللہ تعالیٰ ایسے سچے لوگوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ انہیں وہ اچھی جگہ عنایت فرمائے گا۔ جیسے مدینہ اور پاک روزی مال کا بھی بدله ملا اور وطن کا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص خوفِ الہی سے جیسی چیز کو چھوڑے اللہ تعالیٰ اسی جیسی اس سے کہیں بہتر پاک اور حلال چیز سے عطا فرماتا ہے۔ ان غریبِ الوطن مہاجرین کو دیکھنے کے اللہ تعالیٰ نے انہیں حاکم و بادشاہ کر دیا اور دنیا پر ان کو سلطنت عطا کی۔ ابھی آخرت کا اجر و ثواب باقی ہے۔ پس بھرت سے جان چرانے والے مہاجرین کے ثواب سے واقف ہوتے تو بھرت میں سبقت کرتے۔ اللہ تعالیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے خوش ہو کر آپ جب کبھی کسی مہاجر کو اس کا حصہ غنیمت وغیرہ دیتے تو فرماتے لواللہ تمہیں برکت دئے یہ دنیا کا اللہ کا وعدہ ہے اور ابھی اجر آخربت جو بہت عظیم الشان ہے باقی ہے۔ پھر اسی آیت مبارک کی تلاوت کرتے۔ ان پاکباز لوگوں کا اور وصف پیان فرماتا ہے کہ جو تکلیفیں راہ اللہ میں انہیں پہنچی ہیں یہ انہیں جیسی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جو انہیں توکل ہے اس میں کبھی فرق نہیں آتا، اسی لئے دونوں جہاں کی بھلائیاں یہ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَعَوْا
أَهْلَ الدِّيْنَ كَيْرَ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هُنَّ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرُ
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ هُنَّ

تجھے سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی سمجھتے رہے جن کی جانب وہی اتنا کرتے تھے۔ پس تم اگر نہیں جانتے تو یاد والوں سے دریافت کرو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ۔ یہ اور کتاب ہم نے تیری طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے تو اسے کھول کر بیان کر دے شاید کہ وہ دھیان دھریں۔

انسان اور منصب رسالت پر اختلاف: ☆☆ (آیت: ۳۲-۳۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا تو عرب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا رسول بنائے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ فرماتا ہے اکان لِلنَّاسِ عَجَابًا کیا لوگوں کو اس بات پر تجب معلوم ہوا کہ ہم نے کسی انسان کی طرف اپنی وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے۔ اور فرمایا ہم نے تجھے سے پہلے بھی جتنے روں سمجھیے۔ بھی انسان تھے جن پر ہماری وحی آتی تھی۔ تم پہلی آسمانی کتاب والوں سے پوچھ لو کہ وہ انسان تھے یا فرشتے؟ اگر وہ بھی انسان ہوں تو پھر اپنے اس قول سے بازاً۔ ہاں اگر ثابت ہو کہ سلسلہ نبوت فرشتوں میں ہی رہا تو بے شک اس نبی کا انکار کرتے ہوئے تم اچھے لگو گے۔ اور آیت میں مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ کا لفظ بھی فرمایا یعنی وہ رسول بھی زمین کے باشندے تھے۔ آسمان کی خلوق نہ تھے۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرادِ اہل ذکر سے الٰہ کتاب ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یہی ہے۔ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے جیسے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اُنَّ مِنْ ہے۔ یہ قول بجاے خود تھیک ہے لیکن

اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن لیتا درست نہیں کیونکہ قرآن کے تودہ لوگ منکر تھے۔ پھر قرآن والوں سے پوچھ کر ان کی شفی کیسے ہو سکتی تھی؟ اسی طرح امام ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ ہم اہل ذکر ہیں یعنی یہ امت یہ قول بھی اپنی جگہ ہے۔ درست ہے فی الواقع یہ امت تمام الگی امتوں سے زیادہ علم والی ہے اور اہل بیت کے علماء اور علماء سے بذریعہ کر ہیں۔ جب کہ وہ سنت مستقیمة پر ثابت اور ان کے صاحبزادے جعفر اور ان جیسے اور بزرگ حضرات اللہ کی رحمت و رضا انہیں حاصل ہو جو کہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھا میں ہوئے اور براہما مسٹقیم پر قدم جائے ہوئے اور ہر حقدار کے حق بجالانے والے اور ہر ایک کو اس کی کچی جگہ اتارنے والے ہر ایک کی قدر عزت کرنے والے تھے اور خود وہ اللہ کے تمام نیک بندوں کے دلوں میں اپنی قبولیت رکھتے ہیں۔ یہ بے شک صحیح تو ہے لیکن اس آیت میں یہ مراد نہیں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ آپ بھی انسان ہیں اور آپ سے پہلے بھی انبیاء بنی آدم میں سے ہی ہوتے رہے۔ جیسے فرمان قرآن ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا رَبُّكُوْلَا إِنْ كَهْدَے کے میرا رب پاک ہے۔ میں صرف ایک انسان ہوں جو اللہ کا رسول ہوں۔ لوگ حاضر یہ بہانہ کر کے رسولوں کا انکار کر بیٹھے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنی رسالت دے؟ اور آیت میں ہے تجھے سے پہلے جتنے رسول ہم نے بیجے، سمجھ کھانے پہنچنے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے تھے۔ اور آیت میں ہے، ہم نے ان کے جنم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانے پہنچنے سے بے نیاز ہوں یا یہ کہ مرنے والے ہی نہ ہوں۔ اور جگہ ارشاد ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَائِنَ الرُّسُلِ میں کوئی شروع کا اور پہلا اور نیار رسول تو نہیں؟

ایک اور آیت میں ہے میں تم جیسا انسان ہوں۔ میری جانب وی اماری جاتی ہے اخْنَقْ پس یہاں بھی ارشاد ہوا کہ پہلے کی کتابوں والوں سے پوچھ لو کہ نبی انسان ہوتے تھے یا غیر انسان؟ پھر یہاں فرماتا ہے کہ رسول کو وہ دلیلیں دے کر جھیٹیں عطا فرم اکر بھیجا ہے، کتاب میں ان پر نازل فرماتا ہے، صحیفے انہیں عطا فرماتا ہے۔ زبر سے مراد کتاب میں ہیں جیسے قرآن میں اور جگہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ جو کچھ انہوں نے کیا، کتابوں میں ہے۔ اور آیت میں ہے وَلَقَدْ كَبَنَافِي الرَّبُّوْرِ ہم نے زبور میں لکھ دیا اخْنَقْ پھر فرماتا ہے، ہم نے تینی طرف ذکر نازل فرمایا یعنی قرآن اس لئے کہ چونکہ تو اس کے معنی مطلب سے اچھی طرح واقف ہے اسے لوگوں کو سمجھا بھجادے۔ حقیقتاً نبی آپ ہی اس پر سب سے زیادہ حریص ہیں۔ آپ ہی اس کے سب سے بڑے عالم ہیں اور آپ ہی اس کے سب سے زیادہ عالی ہیں۔ اس لئے کہ آپ افضل الخلق تھیں۔ اولاد آدم کے سردار ہیں۔ جو اجمال اس کتاب میں ہے، اس کی تفصیل آپ کے ذمے ہے، لوگوں پر جو مشکل ہو آپ اسے سمجھادیں تاکہ وہ سوچیں، سمجھیں راہ پائیں اور پھر نجات اور دونوں جہان کی بھلائی حاصل کریں۔

**أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكْرُوْرُوا السَّيْئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ
يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي
تَقْلِيْبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٢﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمُ عَلَى تَحْوِيْفٍ فَإِنَّ
رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾**

بدترین رادیجیت کرنے والے کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھندا رہے یا ان کے پاس ایسی بجگہ سے عذاب آجائے جہاں کا انہیں وہم و مگان بھی ہو ہے۔ یا انہیں چلتے پھرتے کپڑے لے۔ یہ کی صورت میں اللہ کو عاجز ہیں کر سکتے ہیں انہیں ڈرادہ کا کپڑے لے لیں یقیناً تمہارا پروگرام میں شفقت اور انتہائی رحم والا ہے۔

اللہ عزوجل کا غضب: ☆☆ (آیت: ۳۵-۳۶) اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور بالک ارض و سماءات اپنے حلم کا باوجود علم کے اور اپنی مہربانی کا

باجواد غصے کے بیان فرماتا ہے کہ وہ اگر چاہے اپنے گھنگار بد کردار بندوں کو زمین میں ان پر عذاب لاسکتا ہے لیکن اپنی نہایت محربانی سے درگز رکے ہوئے ہے جیسے سوہہ تبارک میں فرمایا۔ اللہ جو آسمان میں ہے، کیا تم اس کے غضب سے نہیں ڈرتے کہ کہیں زمین کو دلدل بنا کر تمہیں اس میں دھنساندے کرو؟ تمہیں بچکو لے ہی لگاتی رہا کرے، کیا تمہیں آسمانوں والے اللہ سے ڈرنیں لگتا؟ کہ کہیں وہ تم پر آسمان سے پھرنا شہزادے۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ذرا ناکیسا تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے منکار بد کردار لوگوں کو ان کے چلتے پھرتے آتے جاتے، کھاتے کھاتے ہی پکڑ لے۔ سفر، حضر، رات دن، جس وقت چاہے پکڑ لے۔ جیسے فرمان ہے آفماں اہل القرآن کیا بھتی والے اس سے غرہو گئے ہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات ہی رات میں ان کے سوتے سلاتے ہی آجائے یادن چڑھے ان کے کھیل کو دے وقت ہی آجائے۔ اللہ کو کوئی کام عاجز نہیں کر سکتا۔ وہ ہارنے والا، تھکنے والا اور ناکام ہونے والا نہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ باوجود ڈر خوف کے انہیں پکڑ لے تو دونوں عتاب ایک ساتھ ہو جائیں۔ ڈر اور پھر پکڑ۔ ایک کو اچانک موت آجائے اور دوسرا ڈرے۔ پھر مرے۔ لیکن رب العلیٰ رب کائنات ہر ایسی روٹ و رحیم ہے اس لئے جلدی نہیں پکڑتا۔ صحیحین میں ہے خلاف طبع بتیں سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد ڈھنہراتے ہیں اور وہ انہیں رزق و عافیت عنایت فرماتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب کچڑا نازل فرماتا ہے، پھر وہ اچانک تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضور ﷺ نے آیت و کذلک اخْدُرِ رَبِّكَ اخْ، پڑھی۔ اور آیت قرآن میں ہے وَ كَأَيْنَ مِنْ قَرِيبَةِ اخْ، بہت سی بستیاں ہیں جنہیں میں نے کچھ مہلت دی لیکن آخران کے ظلم کی بناء پر انہیں گرفتار کر لیا۔ لوثا تو میری ہی جانب ہے۔

أَوْلَمْ يَرَوَا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۝ يَتَفَقَّهُوا ظِلَالُهُ عَنِ
الْيَمَّينِ وَالشَّمَاءِ إِلَيْهِ سُجَّدَ أَنْتَ وَهُمْ لَا يَرُونَ هُنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآبَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ هُنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْقَمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمِرُونَ هُنَّ

کیا انہوں نے مخلوق اللہ میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سامنے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سر بخود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں ॥ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تو تکبر نہیں کرتے ॥ اور اپنے رب سے جوان کے اور پر ہے کچکپاٹے رہجے ہیں اور جو حکمل جائے اس کی قیمت میں لگر رہتے ہیں ॥

عرش سے فرش تک: ☆☆ (۵۰-۳۸) آیت: اللہ تعالیٰ ذوالجلال والا کرام کی عظمت و جلالت کہریاً اور بے ہمتائی کا خیال کیجئے کہ ساری مخلوق عرش سے فرش تک اس کے سامنے مطیع اور غلام، جہادات و حیوانات، انسان اور جنات، فرشتے اور کل کائنات اس کی فرمانبردار، ہر چیز صبح شام اس کے سامنے ہر طرح سے اپنی عاجزی اور بے کسی کا ثبوت پیش کرنے والی، جھک جھک جک اس کے سامنے سجدے کرنے والی۔ مجاهد فرماتے ہیں، سورج ڈھلتے ہی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتی ہیں۔ ہر ایک رب العالمین کے سامنے ذلیل و پست ہے عاجز و بے بس ہے، پھر اونچی کا سیدہ ان کا سایہ ہے، سمندر کی موجیں، اس کی نماز ہے۔ انہیں گویا ذوی العقول سمجھ کر سجدے کی نسبت ان کی طرف کی۔ اور فرمایا میں

وَآسَانَ كَلْ جَانِدَ رَاسَ كَسَانِي سَجَدَ مِنْ هِيَ فَرَمَنَ هُنَّ بِهِ وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ طَوْعًا وَكَرْهًا لَهُ خُشِّي نَا خُشِّي هُرْجِيزِ ربِّ الْعَالَمِينَ كَسَانِي سَرْبَسْجُودَهُنَّ اَنَّ كَسَانِي شَامَ سَجَدَ كَرْتَهُ ہیں - فَرَشَتَهُ بَھی باو جو دا پنی قدر و منزلت کے اللَّهُ کَسَانِي سَجَدَ پست ہیں، اس کی عبادت سے نجک نہیں آسکتے - اللَّهُ تَعَالَیٰ جَلَّ وَعَلَى سے کانپتے اور رازتے رہتے ہیں اور جو حکم ہے اس کی بجا آوری میں مشغول ہیں - نَنَافِرْمَانِی کرتے ہیں نَسْقَنِی کرتے ہیں -

**وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَخَذُوا إِلَهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاهُ
فَارْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ
وَاصْبَأْ أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَقَبَّوْنَ وَمَا يِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ
فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الصُّرُّ فَالِيهِ تَجْرُؤُنَ ثُمَّ إِذَا
كَشَفَ الصُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ حُمَّ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
لِيَكْفُرُوا بِمَا أَتَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ**

اللَّهُ تَعَالَیٰ ارشاد فرمادا چکا ہے کہ دو دو معبود نہ بناو، معبود تو صرف ہی اکیلا ہی ہے، پس تم سب صرف میراہی ڈرخوف رکو ۰ آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر بھی تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے رہتے ہو؟ ۰ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت ہیش آجائے تو اسی کی طرف نال و فریاد کرتے ہو ۰ اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتے ہیں ۰ کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو۔ آخرا کو تمہیں حکوم ہوئی جائے گا ۰

ہر چیز کا واحد مالک وہی ہے: ☆☆ (آیت: ۵۰-۵۵) اللَّهُ وَاحِدٌ کے سوا کوئی مُحْكَمٌ عبادت نہیں وہ لا شریک ہے - وہ ہر چیز کا خالق ہے مالک ہے پا نہار ہے - اسی کی خالص عبادت دائی اور واجب ہے - اس کے سوا دوسروں کی عبادت کے طریقے نہ اختیار کرنے چاہیں - آسان وزمین کی تمام خلوق خوشی یا ناخوشی اس کے ماتحت ہے - سب کو لوٹایا جانا اسی کی طرف ہے - خلوص کے ساتھ اسی کی عبادت کرو - اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے سے بچو - دین خالص صرف اللَّهُ ہی کا ہے، آسان وزمین کی ہر چیز کا مالک وہی تھا ہے - نفع نقصان اسی کے اختیار میں ہے - جو کچھ نعمتیں بندوں کے ہاتھ میں ہیں، سب اسی کی طرف سے ہیں، رزق، نعمتیں، عافیت، تصرف اسی کی طرف سے ہے، اسی کے فضل و احسان بدن پر ہیں - اور اب بھی ان نعمتوں کے ہاتھ میں کے بعد بھی تم اس کے دیے ہی محتاج ہو، مصیبتوں اب بھی سر پر منڈلارہی ہیں - مُحْكَمٌ کے وقت وہی یاد آتا ہے اور گڑگڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ کئھن وقت میں اسی کی طرف حکمتے ہو - خود مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب سمندر میں گھر جاتے، باد مخالف کے جھوٹ کے کشتی کو پتے کی طرح چکولے دینے لگتے تو اپنے شما کروں، دیوتاؤں، بنوں، پیروں، فقیروں، ولیوں، نبیوں سب کو بھول جاتے اور خالص اللَّه سے لوٹا کر خلوص دل سے اس سے بچاؤ اور نجات طلب کرتے - لیکن کفارے پر کشتی کے پار لگتے ہی اپنے پرانے اللَّه سب یاد آ جاتے اور معبود حقیقی کے ساتھ پھر ان کی پوچاپاٹ ہونے لگتی - اس سے بڑھ کر بھی ناشکری، کفر اور نعمتوں کی فراموشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ - یہاں بھی فرمایا کہ مطلب تکل جاتے ہی بہت سے لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں - لیکفرو اکالام لام عاقبت ہے اور لام تعیل بھی کہا گیا ہے، یعنی ہم نے یہ خصلت ان کی اس لئے کر دی ہے کہ وہ اللَّہ کی نعمت پر پردے ڈالیں اور اس کا انکار کریں حالانکہ

در اصل نعمتوں کا دینے والا مصیبتوں کا دفع کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ پھر انہیں ڈراتا ہے کہ اچھادنیا میں تو اپنا کام چلا لو، معمولی سماں فائدہ یہاں کا اٹھا لو لیکن اس کا انعام ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا لِمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَأْلِهٌ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ هُنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنِتَ سُبْحَنَةٌ وَلَهُمْ مَا يَشَتَهُونَ هُنَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالآتِيَّةِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ هُنَّ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمَ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ آيُّمِسِكَةٌ عَلَى هُوَنِ اُمُّ يَدِسَّةٍ فِي التَّرَابِ أَلَاسَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ هُنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثْلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثُلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْغَنِيُّ زَلِيلٌ

جنے جانتے بوجھے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری روی ہوئی چیز میں مقرر کرتے ہیں، اللہ ان کے اس بہتان کا سوال ان سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ ○ اللہ جگانہ و تعالیٰ کے لئے لا کیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لئے وہ جو اپنی خواہش کے مطابق ہو ○ ان میں سے کسی کو جب لڑکی ہونے کی خردی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہن دل میں گھٹ لگتا ہے ○ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھاچھا پھرنا ہے سوچتا ہے کہ کیا اس ذلت کو لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبادے آءا کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں؟ ○ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی بری مثال ہے اللہ کے لئے تو نہایت ہی بلند صفت ہے وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے ○

باز پرس لازمی ہوگی: ☆☆ (آیت: ۵۲-۵۰) مشرکوں کی بے عقلی اور بے ذمگی بیان ہو رہی ہے کہ دینے والا اللہ ہے سب کچھ اسی کا داری ہوا اور یہ اس میں سے اپنے جھوٹے معبودوں کے نام کر دیتے ہیں جن کا صحیح علم بھی انہیں نہیں پھر اس میں ختنی ایسی کریں کہ اللہ کے نام کا تو چاہے ان کے معبودوں کے نام ہو جائے لیکن ان کے معبودوں کے نام کیا گیا اللہ کے نام نہ ہو سکے۔ ایسے لوگوں سے ضرور باز پرس ہوگی اور اس افتر اکا بدال انہیں پورا پورا ملے گا۔ جہنم کی آگ ہوگی اور یہ ہوں گے۔ پھر ان کی دوسرا بے انصافی اور حماقت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے مقرر غلام فرشتے ان کے زرد یک اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ خطا کر کے پھر ان کی عبادت کرتے ہیں جو خطاب پر خطا ہے۔ یہاں تین جرم ان سے سرزد ہوئے۔ اولًا تو اللہ کے لئے اولاد مکمل ادا جو اس سے یکسر پاک ہے۔ پھر اولاد میں سے بھی وہ قسم اسے دینا جسے خود اپنے لئے بھی پسند نہیں کرتے یعنی لا کیاں۔ کیا یہی اٹھی بات ہے کہ اپنے لئے تو لڑ کے اور اللہ کے لئے لا کیاں۔ پھر ان کی عبادت کرنا یہ ان کا سراسر بہتان ہے۔ محض جھوٹ ہے۔ کیے ممکن ہے کہ اللہ کے لئے اولاد ہو؟ پھر اولاد بھی وہ جوان کے زرد یک نہایت روی اور ذلیل چیز ہے۔ کیا حماقت ہے کہ انہیں تو اللہ لا کے دے اور اپنے لئے لا کیاں رکھے؟ اللہ اس سے بلکہ اولاد سے پاک ہے۔ انہیں جب خبر ملے کہ ان کے ہاں لڑکی ہوئی تو مارے نہ امامت و شرمن کے منہ کالا پڑ جائے زبان بند ہو جائے، غم سے کر جھک جائے، زہر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو جائے۔ لوگوں سے منہ چھاپتا پھرے۔ اسی سوچ میں رہے کہ اب کیا کروں۔ اگر لڑکی کو زندہ چھوڑتا ہوں تو بڑی رسائی ہے۔ نہ وہ وارث بنے نہ کوئی چیز بھی جائے، لڑکے کو اس پر ترجیح دی جائے غرض زندہ رکھنے تو نہایت ذلت سے۔ ورنہ صاف بات ہے کہ جیتے ہی گرٹھا کھو دا اور دبادی۔ یہ حالت تو اپنی ہے۔ پھر اللہ کے لئے یہی چیز ثابت کرتے ہیں۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں؟ کتنی بے حیائی کی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ کے لئے جو بھی

ثابت کریں اسے اپنے لئے سخت تر باعث تو ہیں و تذمیل صحیح۔ اصل یہ ہے کہ بری مثال اور نقصان انہی کا فردوں کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے کمال ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے اور ذوالجلال والا کرام ہے۔

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلِكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ هُنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ هُنَّ

اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتا تو اور دے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا۔ وہ انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیئے ہوئے ہے۔ جب ان کا دو وقت آجائے گا پھر نہ تو ایک ساعت کی دیری گئے نہ بلکہ ہر دو ہو۔ اپنے لئے جو کروہ رکھتے ہیں اللہ کے لئے ثابت کرتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹیں باتمیں بیان کرنی ہیں کہ ان کے لئے خوبی ہے، نہیں نہیں دراصل ان کے لئے آگ ہے اور یہ دوزخیوں کے پیش رو ہیں۔

وہ بندوں کو مهلت دیتا ہے: ☆☆ (آیت: ۶۱-۶۲) اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم، لطف و رحم کا بیان ہوا ہے کہ بندوں کے گناہ دیکھتا ہے اور پھر بھی انہیں مهلت دیتا ہے۔ اگر فوراً ہی کپڑے تو آج زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ انسانوں کی خطاؤں میں جانور بھی ہلاک ہو جائیں۔ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے۔ بروں کے ساتھ بھلے بھی کپڑا میں آ جائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حلم و کرم، لطف و رحم سے پرده پوشی کر رہا ہے درگز رفرہ مار رہا ہے معافی دے رہا ہے۔ ایک خاص وقت تک کی مهلت دیئے ہوئے ہے ورنہ کیڑے اور بھنگی بھی نہ پہنچتے۔ بنی آدم کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے عذاب الہی ایسے آتے کہ سب کو غارت کر جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سن کہ کوئی صاحب فرمائے ہیں، ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ پرندے اپنے گھوسلوں میں بوجاس کے ظلم کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔

ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے سامنے کچھ ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی نفس کو ڈھیل نہیں دیتا۔ عمر کی زیادتی نیک اولاد سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔ پھر ان بچوں کی دعا میں ان کی قبر میں انہیں پہنچنی رہتی ہیں۔ بھی ان کی عمر کی زیادتی ہے۔ اپنے لئے یہ ظالم بڑی کیاں ناپسند کریں، شرکت نہ چاہیں اور اللہ کے لئے یہ سب روا رکھیں۔ پھر یہ خیال کریں کہ یہ دنیا میں بھی اچھائیاں سینئے والے ہیں اور اگر قیامت قائم ہوئی تو وہاں بھی بھلائی ان کے لئے ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ نفع کے مشتق اس دنیا میں تو ہم ہیں ہی اور سمجھ بات تو یہ ہے کہ قیامت نے آنہیں۔ بالفرض آئی بھی تو وہاں کی بہتری بھی ہمارے لئے ہی ہے۔ ان کفار کو عنقریب سخت عذاب چکھنے پڑیں گے۔ ہماری آئیوں سے کفر، پھر آرزو یہ کہ مال و اولاد ہمیں وہاں بھی ملے گا۔ سورہ کہف میں دوسرا تھیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ ظالم اپنے باغ میں جاتے ہوئے اپنے نیک ساتھی سے کہتا ہے میں تو اسے ہلاک ہونے والا جانتا ہی نہیں نہ قیامت کا قائل ہوں اور اگر بالفرض میں دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہاں اس سے بھی بہتر چیز ریا جاؤں گا۔ کام برے کریں، آرزو بیکی کی رکھیں، کام نئے بوئیں اور پھل چاہیں۔ کہتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی عمارت کو نئے سرے سے بنانے کے لئے جب ڈھایا تو بنیادوں میں سے ایک پھر لٹکا جس پر ایک لہبہ لکھا ہو تھا۔ جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم برائیاں کرتے ہو اور نیکیوں کی

امید رکھتے ہو۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کانے بُوکر انگور کی امید رکھنا۔ پس ان کی امید یہ تھیں کہ دنیا میں بھی انہیں جاہ و حشمت اور لوٹنڈی غلام ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے دراصل ان کے لئے آتشِ دوزخ تیار ہے۔ وہاں یہ رحمت رب سے بھلا دیئے جائیں گے اور ضائع اور بر باد ہو جائیں گے۔ آج یہ ہمارے احکام بھلائے بیٹھے ہیں۔ کل انہیں ہم اپنی نعمتوں سے بھلا دیں گے، یہ جلدی ہی جہنم نہیں ہونے والے ہیں۔

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَّةٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَرَزَّيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ
أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَبَ إِلَّا لِتُشَبِّهَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ لَّيُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَا يَأْتِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ لَّيَسْمَعُونَ

قسم اللہ کی ہم نے تھے سے پہلے کی اموں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجیں شیطان نے ان کی بد اعمالی ان کی نگاہوں میں مزین کر دی۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفق بنا ہوا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اس کتاب کو ہم نے تھجھ پڑا ہی لئے اتنا ہے کہ تو ہر اس چیز کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ جسمائی اور ایمانداروں کے لئے رحمت ہے۔ اور اللہ آسمان سے پانی بر سار کراس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے البتہ نثان ہے جو میں۔

شیطان کے دوست: ☆☆ (آیت: ۶۳-۶۵) اے نبی ﷺ آپ تسلیم ہیں۔ آپ کو آپ کی قوم کا جھلانا کوئی انوکھی بات نہیں، کون سا نبی آیا جو جھلانا نہ گیا؟ باقی رہے جھلانے والے وہ شیطان کے مرید ہیں۔ برائیاں انہیں شیطانی و سوسائس سے بھلا کیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا ولی شیطان ہے۔ وہ انہیں کوئی لفظ پہنچانے والا نہیں۔ ہمیشہ کے لئے مصیبت افراد ابوبیں میں چھوڑ کر ان سے الگ ہو جائے گا۔ قرآن حق و باطل میں بیج جھوٹ میں تمیز کرانے والی کتاب ہے، ہر جگہ اور ہر اختلاف کا فیصلہ اس میں موجود ہے۔ یہ دلوں کے لئے ہدایت ہے اور ایماندار جو اس پر عامل ہیں ان کے لئے رحمت ہے۔ اس قرآن سے کس طرح مردہ دل جی اٹھتے ہیں، اس کی مثال مردہ زمین اور باش کی ہے۔ جو لوگ بات کوئی سمجھیں وہ تو اس سے بہت کچھ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبَرَةٌ نَسِيقِكُمْ مِمَّا فِي بَطْوُنِهِ
مِنْ أَبْيَنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبَيْنَ
وَمِنْ ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَسْخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

تمہارے لئے تو چوپا پاؤں میں بھی عبرت ہے کہ ہم تمہیں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اسی میں سے گوہا و لبو کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں

کے لئے سہتا پچتا ہے ॥ کھجور اور انگور کے درختوں کے چالوں سے تم شراب بنا لیتے ہو اور حلال اور عدمہ روزی بھی جلوگ عقل رکھتے ہیں، ان کے لئے تو اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے ॥

خونگوار دودھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا گواہ ہے: ☆☆ (آیت: ۲۶-۲۷) اونٹ، گائے، بکری وغیرہ بھی اپنے خالق کی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔ بطنونہ میں ضمیر کو یا تو نعمت کے معنی پر لوٹایا ہے یا حیوان پر چوپائے بھی حیوان ہی ہیں۔ ان حیوانوں کے پیٹ میں جو الابلا بھری ہوئی ہوتی ہے، اسی میں سے پروردگار عالم تمہیں نہایت خوش ذائقہ، طفیل اور خونگوار دودھ پلاتا ہے۔ دوسری آیت میں بطنونہ ہے۔ دنوں با تین جائز ہیں۔ جیسے آیت کہاً اِنَّهُ تَذَكَّرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ میں ہے اور جیسے آیت وَإِنَّ مُرْسَلَةَ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظَرَةٌ بِمِيرَجِ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهُ سُلَيْمَانٌ میں ہے۔ پس جاءہ میں مذکرا ہے۔ مراد اس سے مال ہے جانور کے بطن میں جو گورخون وغیرہ ہے، ان سے بچا کر دودھ تمہارے لئے نکالتا ہے۔ نہ اس کی سفیدی میں فرق آئے نہ حلاوت میں نہ مزے میں۔ معدے میں غذا پچھی وہاں سے خون رگوں کی طرف دوڑ گیا، دودھ تھن کی طرف بہنچا، پیشتاب نے مٹانے کا راستہ پکڑا، گور اپنے مخرج کی طرف جمع ہوا۔ نہ ایک دوسرے سے ملے نہ ایک دوسرے کو بد لے۔ یہ خالص دودھ جو پینے والے کے حلق میں با آرام اتر جائے، اس کی خاص نعمت ہے۔ اس نعمت کے بیان کے ساتھ ہی دوسری نعمت بیان فرمائی کہ کھجور اور انگور کے شیرے سے تم شراب بنا لیتے ہو۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں چیزوں کی شراب ایک ہی حکم میں ہے جیسے الک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ اور جہور علما کا مذہب ہے اور یہی حکم ہے اور شرابوں کا جو گیگہوں جوار اور شہد سے بنائی جائیں جیسے کہ حدیثوں میں مفصل آچکا ہے۔ یہ جگہ اس کی تفصیل کی نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب بناتے ہو جو حرام ہے اور اور طرح کھاتے پیتے ہو جو حلال ہے۔ مثلاً خشک کھجور یا کشمش وغیرہ اور نینیذ شربت بنا کر سرکہ بنا کر اور کئی اور طریقوں سے۔ پس جن لوگوں کو عقل کا حصہ دیا گیا ہے، وہ اللہ کی قدرت و عظمت کو ان چیزوں اور ان نعمتوں سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ دراصل جو ہر انسانیت عقل ہی ہے۔ اسی کی نگہبانی کے لئے شریعت مطہرہ نے نئے والی شرائیں اس امت پر حرام کر دیں۔ اسی نعمت کا بیان سورہ یسین کی آیت وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنْتِ مِنْ نَحْيَلِ الْخَمْرِ میں ہے یعنی زمین میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باعث لگادیئے اور ان میں پانی کے چشمے بہادر یئے تاکہ لوگ اس کا پھل کھائیں یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نہیں۔ کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہیں کریں گے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین کی پیداوار میں اور خود انسانوں میں اور اس مخلوق میں جسے یہ جانتے ہی نہیں ہر طرح کی جوڑا جوڑا اچیزیں پیدا کر دیں۔

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ
الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ لَهُمْ كُلُّ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ
فَاسْلُكِي سُبُّلَ رَبِّكِ دُلُّاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونَهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفُ الْوَانَةِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقَوْمٍ
تَيَقْنَّوْنَ

تیرے رب نے شہد کی بھی کو حکم دیا کہ پیاراؤں میں درختوں میں اور لوگوں کی بیانی ہوئی بلند عمارتوں میں اپنے چھتے ہیا ॥ اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی

آسان را ہوں میں جلتی پھر تر رہ ان کے پیٹ سے پینے کا شہد نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لئے شفایہ، غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں بھی بہت بڑا نشان ہے ۰

وَحْيٌ سے کیا مراد ہے؟ ☆☆ (آیت: ۱۸-۲۹) وحی سے مراد یہاں پر الہام وہدایت اور ارشاد ہے۔ شہد کی مکھیوں کو اللہ کی جانب سے یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ پہاڑوں میں درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنائے۔ اس ضعیف مخلوق کے اس گھر کو دیکھئے، کتنا مضبوط کیسا خوبصورت اور کیسی کاری گری کا ہوتا ہے۔ پھر اسے ہدایت کی اور اس کے لئے مقدر کر دیا کہ یہ سچلوں پھولوں اور گھاس پات کے رس چوتی پھرے اور جہاں چاہے جائے آئے لیکن واپس لوٹنے وقت سیدھی اپنے چھتے کو پہنچ جائے چاہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو چاہے بیابان کے درخت ہوں چاہے آبادی کے بلند مکانات اور ویرانے کے سنان کھنڈر ہوں یہ نہ راستہ بھولے نہ بھکتی پھرے خواہ کتنی ہی دور نکل جائے۔ لوٹ کر اپنے چھتے میں اپنے بچوں، ائمتوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پوں سے موم بنائے۔ اپنے منہ سے شہد جمع کرے اور دسری جگہ سے بچے۔ ذللاً کی تفسیر اطاعت گزار اور سخراں سے بھی کی گئی ہے۔ پس یہ حال ہو گا سالکہ کا جیسے قرآن میں وَذَلِّلُهُنَا لَهُمُ الْأَنْجَنُ میں بھی معنی مراد ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لوگ شہد کے چھتے کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں۔ لیکن پہلا قول بہت زیادہ ظاہر ہے یعنی یہ اس کے طریق کا حال ہے۔ اہن جریدوں قول صحیح ہلاتے ہیں۔ ابو عیلی موصی میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں مکھی کی عمر چالیس دن کی ہوتی ہے سوائے شہد کی مکھی کے۔ کئی کھیاں آگ میں بھی ہوتی ہیں۔ شہد کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ سفید، زرد، سرخ وغیرہ جیسے پھول پھول اور جیسی زمین۔ اس ظاہری خوبی اور رنگ کی چمک کے ساتھ اس میں شفا بھی ہے۔ بہت سی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے بیہاں فیہ الشفاء للناس نہیں فرمایا اور نہ ہر بیماری کی دو ایکیں تھہر تی بلکہ فرمایا اس میں شفا ہے لوگوں کے لئے۔ پس یہ سرد بیماریوں کی دوا ہے۔ علاج ہمیشہ بیماریوں کے خلاف ہوتا ہے۔ پس شہد گرم ہے سردی کی بیماری میں مفید ہے۔

مجاہد اور ابن جریر سے منقول ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے یعنی قرآن میں شفا ہے۔ یہ قول گواپنے طور پر صحیح ہے اور واقعی قرآن شفا ہے لیکن اس آیت میں یہ مراد بینا سیاق کے مطابق نہیں۔ اس میں تو شہد کا ذکر ہے اسی لئے مجاہد کے اس قول کی اقتضائیں کی گئی۔ ہاں قرآن کے شفا ہونے کا ذکر آیت وَنَزَّلْتُ مِنَ الْقُرْآنَ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ میں ہے اور آیت شفاء لِمَا فِي الصُّدُورِ میں ہے۔ اس آیت میں تو مراد شہد ہے چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ کسی نے آ کر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے شہد پلاو، وہ گیا شہد دیا پھر آیا اور کہا حضور ﷺ سے تو بیماری اور بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا: جا اور شہد پلا۔ اس نے جا کر پھر پلایا، پھر حاضر ہو کر بھی عرض کیا کہ دست اور بڑھ گئے، آپ نے فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے جا پھر شہد دے۔ تیسرا مرتبہ شہد سے بفضل اللہ شفا حاصل ہو گئی۔ بعض طبیبوں نے کہا ہے، ممکن ہے اس کے پیٹ میں فضیل کی زیادتی ہو، شہد نے اپنی گری کی وجہ سے اس کی تحلیل کر دی۔ فضلہ خارج ہونا شروع ہوا۔ دست بڑھ گئے۔ اعرابی نے اسے مرض کا بڑھ جانا سمجھا۔ حضور ﷺ سے شکایت کی۔ آپ ﷺ نے اور شہد دینے کو فرمایا اس سے زور سے فضلہ خارج ہونا شروع ہوا پھر شہد دیا، پیٹ صاف ہو گیا، بلکل گئی اور کامل شفا بفضل اللہ حاصل ہو گئی اور حضور ﷺ کی بات جو بشارہ الہی تھی، پوری ہو گئی۔

بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ سرور رسول ﷺ کو مٹاں اور شہد سے بہت الفت تھی۔ آپ کافرمان ہے کہ تین چیزوں میں شفا ہے۔ پچھنے لگانے میں، شہد کے پینے میں اور داغ لگوانے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں۔ بخاری شریف کی

حدیث میں ہے کہ تھاہری دو اور میں سے کسی میں اگر شفایہ تو پچھنے لگانے میں شہد کے پینے میں اور آگ سے دخانے میں جو بیماری کے مناسب ہو لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ مسند احمد میں ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا بلکہ ناپسند رکھتا ہوں۔ ابن ماجہ میں ہے، تم ان دونوں شفاوں کی قدر کرتے رہو شہد اور قرآن۔ ابن جریر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شفاقا چاہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے پر لکھ لے اور اسے بارش کے پانی سے دھو لے اور اپنی بیوی کے مال سے اس کی اپنی رضا مندی سے پیسے لے کر شہد خرید لے اور اسے پی لے۔ پس اس میں کتنی وجہ سے شفایہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عز وجل کا فرمان ہے وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یعنی ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا ہے جو مونین کے لئے شفایہ اور رحمت ہے۔

اور آیت میں ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَرَّكًا ہم آسمان سے با برکت پانی بر سرا تے ہیں۔ اور فرمان ہے فَإِن طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَطَلُوْهُ هَنِيَّا مَرِيَّا یعنی اگر عورتیں اپنے مال مہر میں سے اپنی خوش تہییں کچھ دے دیں تو بے شک تم اسے کھاؤ بیوی مزے سے۔ شہد کے بارے میں فرمان اللہ ہے فیہ شفاء للناس شہد میں لوگوں کے لئے شفاء ہے۔ ابن ماجہ میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں، جو شخص ہر میں میں تین دن صحیح کو شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی بلاں نہیں پہنچے گی۔ اس کا ایک راوی زیر بن سعید متوفی ہے۔ ابن ماجہ کی اور حدیث میں آپؐ کافرمان ہے کہ تم سنا اور سنت کا استعمال کیا کرو؟ ان میں ہر بیماری کی شفایہ سوائے سام کے۔ لوگوں نے پوچھا سام کیا؟ فرمایا موت۔ سنت کے معنی بہت کے ہیں اور لوگوں نے کہا ہے سوت شہد ہے جو جھی کی مشک میں رکھا ہوا ہو۔ شاعر کے شعر میں مجھی یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ مجھی جیسی بے طاقت چیز کا تمہارے لئے شہد اور سوم بنا، اس کا اس طرح آزادی سے پھرنا اپنے گھر کو نہ بھولنا وغیرہ یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے والوں کے لئے میری عظمت، خالقیت اور مالکیت کی بڑی ثانیات ہیں۔ اسی سے لوگ اپنے اللہ کے قادر، حکیم، علیم، کریم، حیم ہونے پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ
الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِهِ شَيْئًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَدِيرٌ
وَاللَّهُ فَصَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ
فَصَّلُوا بِرَأْدِيٍّ رِزْقَهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ
فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَيْنِعْمَةُ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

اللہ تعالیٰ نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے۔ وہی پھر تہیں فوت کرے گا۔ تم میں ایسے بھی ہیں جو بذریعہ عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانے بوجھنے کے بعد بھی نہ جانیں بے شک اللہ تعالیٰ دانا اور تو اتا ہے ۝ اللہ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرا سے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے میں جھیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنی ما تھی کے غلاموں کو نہیں دیا کرتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے مکر ہو رہے ہیں؟ ۝

بہترین دعا : ☆☆ (آیت: ۷۰) تمام بندوں پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی انہیں عدم سے وجود میں لا جائے ہے، وہی انھیں پھر فوت کرے گا۔ بعض لوگوں کو بہت بڑی عمر تک پہنچاتا ہے کہ وہ پھر سے بچوں جیسے نا تو اس بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر سال کی عمر میں عمماً انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، حافظ جاتا رہتا ہے۔ علم کی کمی ہو جاتی ہے، عالم

ہونے کے بعد بے علم ہو جاتا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی دعائیں فرماتے تھے اللہمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسْلِ وَالْهَرَمِ وَأَرْدِلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبِيرِ وَفِتْنَةِ الدِّجَالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ یعنی الہی میں بخلی سے عاجزی سے بڑھاپے سے ذلیل عمر سے قبر کے عذاب سے وجہ کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ زہیر بن ابوسلہ نے بھی اپنے مشہور قصیدہ معقلہ میں اس عکر کو رنج و غم کا مخزن و منبع بتایا ہے۔

مشرکین کی جہالت کا ایک انداز: ☆☆ (آیت: ۱۷) مشرکین کی جہالت اور ان کے کفر کا بیان ہو رہا ہے کہ اپنے معبودوں کو اللہ کے غلام جاننے کے باوجود ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حج کے موقع پر وہ کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک لَا شریک ہو لک تملکہ و ما ملک لیعنی اے اللہ میں تیرے پاس حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو خود تیرے غلام ہیں ان کا اور ان کی ماحت چیزوں کا اصلی مالک تو ہی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں الزام دیتا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کی اپنی برادری اور اپنے مال میں شرکت پسند نہیں کرتے تو پھر میرے غلاموں کو میری الوہیت میں کیسے شریک کہا ہے؟ یہی مضمون آیت ضرب لکم مثلاً مِنْ أَنفُسِكُمُ الْخَمْ میں بیان ہوا ہے۔ کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں اپنی بیویوں میں اپنا شریک بنانے سے نفرت کرتے ہو تو پھر میرے غلاموں کو میری الوہیت میں کیسے شریک سمجھ رہے ہو؟ یہی اللہ کی نعمتوں سے انکار ہے کہ اللہ کے لئے وہ پسند کرنا جو اپنے لئے بھی پسند نہ ہو۔ یہ ہے مثال معبودوں باطل کی۔ جب تم خود اس سے الگ ہو پھر اللہ تو اس سے بہت زیادہ بے زار ہے۔ رب کی نعمتوں کا کفر اور کیا ہو گا کہ کھیتیاں چوپائے ایک اللہ کے پیدا کئے ہوئے اور تم انہیں اس کے سوا اور وہ کے نام سے منسوب کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک رسالہ لکھا کہ اپنی روزی پر قناعت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک سے زیادہ امیر کر رکھا ہے یہ بھی اس کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ وہ دیکھے کہ امیر امراء کس طرح شکر اللہ ادا کرتے ہیں اور جو حقوق و وسائل کے ان پر جناب باری نے مقرر کئے ہیں کہاں تک انہیں ادا کرتے ہیں۔

**وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَإِلْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٥٠﴾**

الله تعالیٰ نے تمہارے لئے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لئے تمہارے بیٹے اور بیٹیے کے اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں کھانے کو دیں، کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لا سکیں گے؟ اور اللہ کی نعمتوں کی ناگھری کریں گے؟

بندوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان: ☆☆ (آیت: ۷۲) اپنے بندوں پر اپنا ایک اور احسان جاتا ہے کہ انہی کی جنس سے انہی کی ہم شکل؛ ہم وضع عورتیں ہم نے ان کے لئے پیدا کیں۔ اگر جنس اور ہوتی تو دلی میں جول، محبت و موعدت قائم نہ رہتی لیکن اپنی رحمت سے اس نے مردوں عورت ہم جنس بنائے۔ پھر اس جوڑے سے نسل بڑھائی، اولاد پھیلائی، لڑکے ہوئے، لڑکوں کے لڑکے ہوئے، حفَّدَةَ کے ایک معنی تو یہی پوتوں کے ہیں، دوسرے معنی خادم اور مدعاگار کے ہیں۔ پس لڑکے اور پوچھتے بھی ایک طرح خدمت گزار ہوتے ہیں اور عرب میں یہی دستور بھی تھا۔ اب ہن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انسان کی بیوی کی سابقہ گھر کی اولاد اس کی نہیں ہوتی۔ حفَّدَةَ اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے

سامنے اس کے لئے کام کا ج کرے۔ یہ معنی بھی کئے گئے ہیں کہ اس سے مراد مادی رشتہ ہے، اس کے معنی کے تحت میں یہ سب داخل ہیں چنانچہ قوت میں جملہ آتا ہے وَ إِلَيْكَ نَسْعُى وَ نَحْفَدُ هاری سعیٰ کوش اور خدمت تیرے لئے ہی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اولاد سے غلام سے سرال والوں سے خدمت حاصل ہوتی ہے۔ ان سب کے پاس سے نعمت اللہ ہمیں ملتی ہے۔ ہاں جن کے نزدیک حفدة کا تعلق ازو اجاحا سے ہے، ان کے نزدیک تو مراد اولاد کی اولاد اور دادا اور بیوی کی اولاد ہیں۔ پس یہ سب با اوقات اسی شخص کی حفاظت میں، اس کی گود میں اور اس کی خدمت میں ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ یہی مطلب سامنے رکھ کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہو کہ اولاد تیری غلام ہے جیسے کہ ابو داؤد میں ہے۔ درجہنوں نے حفدة سے مراد خادم لیا ہے ان کے نزدیک یہ معطوف ہے اللہ کے فرمان وَ اللہُ جَعَلَ لِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازو اجاحا پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں اور اولاد کو خادم بنا دیا ہے اور تمہیں کھانے پینے کی بہترین ذاتی دار چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ پس باطل پر یقین رکھ کر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنی چاہئے، رب کی نعمتوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کی دوسروں کی طرف نسبت کر دی۔ صحیح حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے احسان جاتے ہوئے فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ میں نے تجھے ذی عزت نہیں بنایا تھا؟ میں نے گھوڑوں اور اونٹوں نو تیرے تا بیٹھیں کیا تھا؟ اور میں نے تجھے مرداری میں اور آرام میں نہیں چھوڑا تھا؟

وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمِلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ
السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئًا وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ه فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ
الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ه ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
عَبْدًا أَمْ مُلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مَنْ زَقْنَةً مِنَّا
رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرَّاً وَ جَهْرًا هَلْ يَسْتَؤْنَ ه
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ه

اللہ کے سوالان کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے اپنی کچھ بھی توروزی نہیں دے سکتے اور نہ کچھ مقدور رکھتے ہیں ۰ لوگوں کا اللہ پر مثالیں مت بناو، اللہ خوب جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے ۰ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے دوسرا کی ملک کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور شخص ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے معمول روزی دے رکھی ہے جس میں سے وہ چھپے کھلے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے سب تعریف ہے بلکہ ان میں سے اکثر جانے نہیں ہیں ۰

توحید کی تاکید: ☆☆ (آیت: ۳۷-۳۸) نعمتیں دینے والا پیدا کرنے والا روزی پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ اکیلا دھدہ لا شریک لہ ہے۔ اور یہ مشرکین اس کے ساتھ اور وہ کو پوچھتے ہیں جو نہ آسمان سے بارش برسا سکیں نہ زمین سے کھیت اور درخت اگا سکیں۔ وہ اگر سب مل کر بھی چاہیں تو بھی نہ ایک بوند بارش برسانے پر قادر نہ ایک پتے کے پیدا کرنے کی ان میں سکت، پس تم اللہ کے لئے مثالیں نہ بیان کرو۔ اس کے شریک و نہیں اور اس جیسا دوسروں کو نہ سمجھو۔ اللہ عالم ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر اپنی توحید پر گواہی دیتا ہے، تم جاہل ہو۔ اپنی جہالت سے اللہ کے شریک دوسروں کو نہ سمجھا رہے ہو۔

مونون اور کافر میں فرق: ☆☆ (آیت: ۷۵) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ کافر اور مون کی مثال ہے۔ پس ملکیت کے غلام سے مراد کافر اور اچھی روزی والے اور خرچ کرنے والے سے مراد مون ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس مثال سے بت کی اور اللہ تعالیٰ کی جدائی سمجھنا تقصود ہے کہ یہ اور وہ برابر کئے نہیں۔ اس مثال کا فرق اس تدریج واضح ہے جس کے بتانے کی ضرورت نہیں، اسی لئے فرمایا کہ تریفیوں کے لائق اللہ ہی ہے۔ اکتوبر مشرک بے علمی پر تلے ہوئے ہیں۔

**وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَّ
هُوَ كَلِيلٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي
هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلْمَحَ
الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ
أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَتُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**

اللہ تعالیٰ ایک مثال یا ان فرماتا ہے دفعنوں کی جن میں سے ایک تو گوئا ہے اور کسی چیز پر احتیار نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے ماں کپ پر بوجھ ہے۔ کہیں بھی اسے بیجئے دہ کوئی بھلانی نہیں لاتا، کیا یہ اور وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے مجی سید مسیح راہ پر برا بر ہو سکتے ہیں؟ ○ آسان وزیں کا علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے، مجیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ○ اللہ نے تمہاری ماوں کے پیٹ سے نکلا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بناۓ کرم شکر گزاری کرو ○

گوئے بت مشرکین کے معبد: ☆☆ (آیت: ۶۷) ہو سکتا ہے کہ یہ مثال بھی اس فرق کے دکھانے کی ہو جو اللہ تعالیٰ میں اور مشرکین کے بتوں میں ہے۔ یہ بت گوئے ہیں۔ نہ کلام کر سکیں نہ کوئی بھلی بات کہ سکیں نہ کسی چیز پر قدرت رکھیں۔ قول فعل دونوں سے خالی۔ پھر مغض بوجھ اپنے ماں کپ پر بار، کہیں بھی جائے کوئی بھلانی نہ لائے۔ پس ایک تو یہ اور ایک وہ جو عدل کا حکم کرتا رہے اور خوب بھی راہ مستقیم پر ہو یعنی قول فعل دونوں کے اعتبار سے بہتر، یہ دونوں کیسے برابر ہو جائیں گے۔ ایک قول ہے کہ گوئا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ مثال بھی کافر و مون کی ہو جیسے اس سے پہلے کی آیت میں تھی۔ کہتے ہیں کہ قریش کے ایک شخص کے غلام کا ذکر پہلے ہے اور دوسرا شخص سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیں اور غلام گوئے سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام ہے جس پر آپ خرچ کرتے تھے جو آپ کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا اور آپ نے اسے کام کا ج سے آزاد کر کھاتا ہیں پھر بھی یہ اسلام سے چلتا تھا، منکر تھا اور آپ کو صدقہ کرنے اور بیکیاں کرنے سے روکتا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

نیکیوں کی دیوار لوگ: ☆☆ (آیت: ۷۷-۹۷) اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بیان فرماتا ہے کہ زمین و آسان کا غیب وہی جانتا ہے، کوئی نہیں جو غیب داں ہو۔ اللہ جسے چاہے جس چیز پر چاہے اطلاق دے دے۔ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے نہ کوئی اس کا خلاف کر سکے نہ کوئی اسے روک سکے۔ جس کام کا جب ارادہ کرے قادر ہے پورا ہو کر ہی رہتا ہے، آنکھ بند کر کے کھولنے میں تو تمہیں کچھ دریگتی ہو گی لیکن

حکم الہی کے پورا ہونے میں اتنی دریبھی نہیں لگتی۔ قیامت کا آنا بھی اس پر ایسا ہی آسان ہے۔ وہ بھی حکم ہوتے ہی آ جائے گی۔ ایک کا پیدا کرنا اور سب کا پیدا کرنا اس پر یکساں ہے۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ اس نے لوگوں کو ماڈل کے پیشوں سے نکالا۔ یہ حکم نادان تھے۔ پھر انہیں کان دیئے جس سے وہ سین۔ آنکھیں دیں جس سے دیکھیں دل دیئے جس سے سوچیں سمجھیں۔ عقل کی جگہ دل ہے اور دماغ بھی کھا گیا ہے۔ عقل سے ہی نفع نقصان معلوم ہوتا ہے یقینی اور حواس انسان کو بذریعہ تھوڑے قہوڑے ہو کر ملتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھوتری بھی ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ کمال کو پہنچ جائیں۔ یہ سب اس لئے ہے کہ انسان اپنی ان طاقتؤں کو اللہ کی معرفت اور عبادت میں لگائے رہے۔ صحیح بخاری میں حدیث قدیم ہے کہ جو میرے دستوں سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے لا ای کا اعلان کرتا ہے۔ میرے فرائض کی بجا آوری سے جس قدر بندہ میری قربت حاصل کر سکتا ہے، اتنی کسی اور چیز سے نہیں کر سکتا۔ نوافل بکثرت پڑھتے پڑھتے بندہ میرے نزدیک اور میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ تھامتا ہے اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے مانگئے میں دیتا ہوں، اگر دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، اگر پناہ چاہے میں پناہ دیتا ہوں اور مجھے کسی کرنے کے کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مومن کی روح کے قبض کرنے میں موت کو ناپسند کرتا ہے۔ میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا اور موت اسی چیز ہی نہیں جس سے کسی ذی روح کو نجات مل سکے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اخلاص اور اطاعت میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام افعال حکم اللہ کے لئے ہو جاتے ہیں۔ وہ سنتا ہے اللہ کے لئے دیکھتا ہے اللہ کے لئے یعنی شریعت کی باقیں سنتا ہے۔ شرع نے جن چیزوں کا دیکھنا جائز کیا ہے، انہی کو دیکھتا ہے، اسی طرح اس کا ہاتھ بڑھانا، پاؤں چلانا بھی اللہ کی رضا مندی کے کاموں کے لئے ہی ہوتا ہے۔ اللہ پر اس کا بھروسہ رہتا ہے۔ اسی سے مدوجا ہتا ہے، تمام کام اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے ہوتے ہیں۔ اس لئے بعض غیر صحیح حدیثوں میں اس کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ پھر وہ میرے ہی لئے سنتا ہے اور میرے ہی لئے دیکھتا ہے اور میرے لئے پکڑتا ہے اور میرے لئے ہی چلتا پھرتا ہے۔ آیت میں بیان ہے کہ ماں کے پیٹ سے وہ نکالتا ہے، کان، آنکھ دل، دماغ وہ دیتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور آیت میں فرمان ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَنَّشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ لَيْسَ اللَّهُ هُوَ نَّمَّهِيْنَ بِيَدِكَمْ لَا يَكُونُ مِنْهُنَّ بَلْ هُوَ كُمْ شَكَرَ گزاری کرتے ہوئے اسی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تہرا حشر کیا جانے والا ہے۔

**آتُمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسْتَحْرِتِ فِي جَوَّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ
إِلَّا اللَّهُ طَانَ فِي ذَلِكَ لَا يَلِيهِ لِقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ**

کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو حکم کے بندھے ہوئے آسان میں ہیں، جنہیں بھروسہ اللہ کے کوئی اور تھامے ہوئے نہیں بے شک اس میں تو ایمان لانے والے لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں ॥

(آیت: ۷۶) پھر اللہ پاک رب العالمین اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ان پرندوں کی طرف دیکھو جاؤ آسان وزمین کے درمیان کی فضائیں پرواز کرتے پھرتے ہیں۔ انہیں پروار دگاری اپنی قدرت کاملہ سے تھامے ہوئے ہے۔ یہ قوت پرواز اسی نے انہیں دے رکھی ہے اور

ہواں کو ان کا مطیع بار کھا ہے۔ سورہ ملک میں بھی یہی فرمان ہے کہ کیا وہ اپنے سروں پر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پر کھو لے ہوئے ہیں اور پر سیمیہ ہوئے بھی ہیں، بجز اللہ رحمٰن و رحیم کے کون تھامتا ہے؟ وہ اللہ تمام مخلوق کو بخوبی دیکھ رہا ہے، یہاں بھی خاتمے پر فرمایا کہ اس میں ایمانداروں کے لئے بہت سے ثان ہیں۔

**وَابِلَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
جَلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ
إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا آثَاثًا
وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ شَهِيدٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ طِلَلًا
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ آكِنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ
تَقِيقَ كُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيقَ كُمْ بَاسَكَمُ كَذِيلَ
يُتِيمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ**

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنادی ہے اور اس نے تمہارے لئے چوپاپیوں کی کھالوں کے گھر بنادی ہے یہی جنپیں تم پہاچاکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن اور اپنے شہر نے کے دن، بھی اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور ایک وقت مقررہ تک کے لئے فائدہ کی چیزیں بنا دیں ॥ اللہ ہی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے سائے بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لئے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئیں وہ اسی طرح اپنی پوری پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم

حکم بردار بن جاؤ ॥

احسانات الہی کی ایک جھلک: ☆☆ (آیت: ۸۰-۸۱) قدمیم اور بہت بڑے ان گنت احسانات و انعامات والا اللہ اپنی اور نعمتیں ظاہر فرماتا ہے۔ اسی نے بنی آدم کے رہنے سہنے آرام اور راحت حاصل کرنے کے لئے انہیں مکانات دے رکھے ہیں۔ اسی طرح چوپائے جانوروں کی کھالوں کے خیبے ذیرے، تمباوس نے عطا فرمار کئے ہیں کہ سفر میں کام آئیں نہ لے جانا و بھرنا لگانا مشکل نہ اکھیز نے میں کوئی تکلیف پھر بکریوں کے بال، اونٹوں کے بال، بھیڑوں اور دنبوں کی اون تجارت کے لئے مال کے طور پر سے تمہارے لیے بنایا ہے۔ وہ گھر کے برتنے کی چیز بھی ہے۔ اس سے کپڑے بھی بنتے ہیں، فرش بھی تیار ہوتے ہیں، تجارت کے طور پر مال تجارت ہے، فائدے کی چیز ہے جس سے لوگ مقررہ وقت تک سودمند ہوتے ہیں۔

درختوں کے سامے اس نے تمہارے فائدے اور راحت کے لئے بنائے ہیں۔ پہاڑوں پر غار قلعے وغیرہ اس نے تمہیں دے رکھے ہیں کہاں میں پناہ حاصل کرو۔ چھپنے اور رہنے سہنے کی جگہ بنالو۔ سوتی، اونی اور بالوں کے کپڑے اس نے تمہیں دے رکھے ہیں کہ پہن کر سردی گری کے بچاؤ کے ساتھ ہی اپنا ستر چھپا اور زیب وزینت حاصل کرو اور اس نے تمہیں زر ہیں، خود بکتر عطا فرمائے ہیں جو دشمنوں کے حملے اور لڑائی کے وقت تمہیں کام دیں۔ اسی طرح وہ تمہیں تمہاری ضرورت کی پوری پوری نعمتیں دیئے چلا جاتا ہے کہ تم راحت و آرام پاؤ اور اطمینان سے اپنے منہم حقیقی کی عبادات میں لگے رہو۔ تُسْلِمُونَ کی دوسری قرأت تَسْلَمُونَ بھی ہے۔ یعنی تم سلامت رہو۔ اور پہلی قرأت

کے معنی تا کہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ اس سورہ کا نام سورۃ الْعَمَ بھی ہے۔ لام کے زبر والی قرات سے یہ بھی مراد ہے کہ تم کو اس نے لڑائی میں کام آنے والی چیزیں دیں کہ تم سلامت رہوں گے وار سے پجو۔ بے شک جنگل اور بیان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں لیکن یہاں پہاڑوں کی نعمت اس لئے بیان کی کہ جن سے کلام ہے وہ پہاڑوں کے رہنے والے تھے تو ان کی معلومات کے مطابق ان سے کلام ہو رہا ہے، اسی طرح چونکہ وہ بھیڑ بکریوں اور اونٹوں والے تھے انہیں یہی نعمتیں یاد دلا میں حالانکہ ان سے بڑھ کر اللہ کی نعمتیں مخلوق کے ہاتھوں میں اور بھی بے شمار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سردی کے اتار نے کا احسان یہاں فرمایا حالانکہ اس سے اور بڑے احسانات موجود ہیں۔ لیکن یہاں کے سامنے اور ان کی جانبی پہچانی چیز تھی اسی طرح چونکہ یہ لڑنے بھر نے والے جنگلوگ تھے لڑائی کے بچاؤ کی چیز بطور نعمت ان کے سامنے رکھی حالانکہ اس سے صد ہا درجے بڑی اور نعمتیں بھی مخلوق کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ اسی طرح چونکہ ان کا ملک گرم تھا فرمایا کہ لباس سے تم گرمی کی تکلیف زائل کرتے ہو درنہ کیا اس سے بہتر اس منعم حقیقی کی اور نعمتیں بندوں کے پاس نہیں؟

فَإِنْ تَوَلُّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿٦﴾ يَعْرِفُونَ

نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكُفَّارُونَ ﴿٧﴾

پھر بھی اگر یہ منہ موزے رہیں تو تھے پر تو صرف ظاہری تبلیغ کر دینا ہی ہے ۝ یہ اللہ کی نعمتیں جانتے پہچانتے ہوئے بھی ان کے مغز ہو رہے ہیں بلکہ ان میں کے اکثر نہ سکرے ہیں ۝

(آیت: ۸۲-۸۳) اسی لئے ان نعمتوں اور حرمتوں کے اظہار کے بعد یہ فرماتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ میری عبادت اور توحید کے اور میرے بے پایاں احسانوں کے قائل نہ ہوں تو تجھے ان کی ایسی کیا پڑی ہے؟ جھوڑ دے اپنے کام میں لگ جا۔ تجھ پر تو صرف تبلیغ ہی ہے۔ وہ کئے جا۔ یہ خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نعمتوں کا دینے والا ہے اور اس کی بے شمار نعمتیں ان کے ہاتھوں میں ہیں لیکن باوجود علم کے مغز ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں بلکہ اس کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ مدد گار فلاں ہے رزق دینے والا فلاں ہے۔ یہ اکثر لوگ کافر ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت اس کے سامنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی کی جگہ کے لئے گھر اور مکانات دیے۔ اس نے کہا ہے، پھر آپ نے پڑھا کہ اس نے تمہیں چوپا یوں کی کھالوں کے خیسے دیئے۔ اس نے کہا یہ بھی سچ ہے، اسی طرح آپ ان آجیوں کو پڑھتے گئے اور وہ ہر ایک نعمت کا اقرار کرتا رہا۔ آخر میں آپ نے پڑھا اس لئے کہ تم مسلمان اور مطیع ہو جاؤ۔ اس وقت وہ پہنچ پھیر کر جل دیا تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت اتاری کہ اقرار کے بعد انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔

**وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا إِنَّمَا لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَّرُونَ ﴿٩﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ
أَشْرَكُوا شَرَكًا هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هُوَ لَاءُ شَرٍّ كَافَرْنَا الَّذِينَ كُنَّا**

نَدْعُوكُمْ مِنْ دُونِكُمْ فَالْقَوْمُ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ

جس دن ہم ہرامت میں سے گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ وہ عذر رجوع طلب کئے جائیں گے ۰ جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو وہ ان سے بہلا کیا جائے گا اور نہ ڈھیل دیئے جائیں گے ۰ جب شرکین اپنے شرکیوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار یہی ہمارے وہ شرک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارتا تھے پس وہ انھیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو ۰

ہرامت کا گواہ اس کا نبی: ☆☆ (آیت: ۸۲-۸۳) قیامت کے دن مشرکوں کی جو بری حالت بنے گی، اس کا ذکر ہورہا ہے کہ اس دن ہر امت پر اس کا نبی گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا پھر کافروں کو کسی عذر کی بھی اجازت نہ ملے گی کیونکہ ان کا بطلان اور جھوٹ بالکل ظاہر ہے۔ سورۃ والمرسلات میں بھی یہی فرمان ہے کہ اس دن نہ وہ بولیں گے نہ انہیں کسی عذر کی اجازت ملے گی۔ مشرکین عذاب دیکھیں گے لیکن پھر کوئی کمی نہ ہوگی۔ ایک ساعت بھی عذاب بہکانہ ہو گانہ انہیں کوئی مہلت ملے گی اچانک پکڑ لئے جائیں گے۔ جہنم آموجو ہو گی جو ستر ہزار لاکھ میل والی ہو گی جس کی ایک لگا میل پر ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔ اس میں سے ایک گردان نکلے گی جو اس طرح پھن پھیلائے گی کہ تمام الٰہی محشر خوف زدہ ہو کر گھننوں کے مل گر پڑیں گے۔ اس وقت جہنم اپنی زبان سے با آواز بلند اعلان کرے گی کہ میں اس ہر ایک کرشمندی کے لئے مقرر کی گئی ہوں جس نے اللہ کے ساتھ کی اور کو شریک کیا ہوا اور ایسے ایسے کام کئے ہوں چنانچہ وہ کئی قسم کے گنجہگاروں کا ذکر کرے گی۔

جیسے کہ حدیث میں ہے پھر وہ ان تمام لوگوں کو لپٹ جائے گی اور میدانِ محشر میں سے انہیں اپک لے لی جیسے کہ پرندہ دانہ چکتا ہے جیسے کہ فرمان باری ہے اذا رَأَتُهُمْ أَنْجَبَ كَوْدَهُ وَرَسَّهُ وَلَعَنَهُمْ كَذِكَنَا، بھر کنا یہ سنن لگیں گے اور جب اس کے شک و تاریک مکان میں جھونک دیئے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے۔ آج ایک چھوڑکنی ایک موت تو کوئی پکاریں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اور آیت میں ہے وَرَاءَ الْمُحْرِمُونَ النَّارُ أَنْهَى رَجُلَيْمُ كَوْدَهُ كَرْسَبِحَلِيْسَ گے کہ وہ اس میں جھونک دیئے جائیں گے لیکن کوئی بچاؤ نہ پائیں گے اور آیت میں ہے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَكَشَ كَافِرَاسَ وَقْتَ كَوْجَانِ لِيَتَهُ جَبَ كَوْدَهُ اپنے چہروں پر سے اور اپنی کردوں پر سے جہنم کی آگ کو دور نہ کر سکیں گے نہ کسی کو مد و گار پائیں گے۔ اچانک عذاب الٰہی انہیں ہر کا کا کر دیں گے نہ انہیں ان کے دفع کرنے کی طاقت ہو گی نہ ایک منٹ کی مہلت ملے گی۔ اس وقت ان کے معبود ان باطل جن کی عمر بھر عبادتیں اور نذریں نیازیں کرتے رہے ان سے بالکل بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی اعتیاق کے وقت انہیں مطقا کام نہ آئیں گے۔ انہیں دکھ کر یہ کہیں گے کہ الٰہی یہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں پوچھتے رہے تو وہ کہیں گے جھوٹے ہو۔ ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہماری پرستش کرو جتاب باری نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمْنُ يَدْعُوا مِنْ دُونَ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَحْيِي لَهُ أَلْيَعْنِي اس سے زیادہ کوئی گراہ نہیں جو اللہ کے سوانحیں پکارتا ہے جو اسے قیامت تک جواب نہ دیں بلکہ وہ ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہوں اور حشر کے دن ان کے دشمن ہو جانے والے ہوں اور ان کی عبادت کا انکار کر جانے والے ہوں اور آجیوں میں ہے کہ اپنا حماقی اور باعث عزت جان کر جنہیں یہ پکارتے رہے وہ تو ان کی عبادتوں کے منکر ہو جائیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِيَعْصُمْ أَلْيَعْنِی قیامت کے دن ایک دوسروں کے منکر ہو جائیں گے اور آیت میں ہے کہ انہیں قیامت کے دن حکم ہو گا کہ اپنے شرکیوں کو پکارو اخ.

**وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ هُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَدَنَاهُمْ
عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ هُنَّ**

اس دن وہ سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے احاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گا ॥ جنہوں نے کفر کیا اور راہ اللہ سے روکا ہم انہیں عذابوں پر عذاب بڑھاتے جائیں گے۔ یہ بدلہ ہو گا ان کی قسم پر داڑھوں کا ॥

(آیت: ۸۷-۸۸) اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں۔ اس دن سب کے سب مسلمان تابع فرمان ہو جائیں گے جیسے فرمان ہے اَسْمَعْ بِهِمْ وَ اَبْصِرْ يَوْمَ يَا تُؤْنَتَا لِعْنِي جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، اس دن خوب ہی سننے والے دیکھنے والے ہو جائیں گے اور آیت میں ہے وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤْسِهِمْ اَلْخَ تودیکھے گا کہ اس دن گھنگھار لوگ اپنے سر جھکاتے کھدھر ہے ہوں گے کہ الہی ہم نے دیکھنے لیا اسی اور آیت میں ہے کہ سب چھرے اس دن اللہ حیی و قوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے تابع اور مطیع ہوں گے زیر فرمان ہوں گے۔ ان کے سارے بہتان و افتراجاتے رہیں گے۔ ساری چالاکیاں ختم ہو جائیں گی کوئی ناصر و مددگار نہ ہو گا۔ جنہوں نے کفر کیا انہیں ان کے کفر کی سزا ملے گی اور اپنے کفر میں دوسروں کو بھی اور دوں کو گھٹینے کی اور ملوث کرنے کی دو گنی سزا ہو گی۔ یہ وہ ہیں جو خود بھی دور بھاگتے تھے اور دوسروں کو بھی حق سے دور بھگاتے رہتے تھے دراصل وہ آپ ہی ہلاکت کی دلدل میں پھنس رہے تھے لیکن بے وقوف تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے عذاب کے بھی درجے ہوں گے جس طرح مونوں کی جزا کے درجے ہوں گے جیسے فرمان خداوندی ہے لِكُلِّ ضَعْفٍ وَلِكُلِّ لَا تَعْلَمُونَ ہر ایک کے لئے دھرا جر ہے لیکن تمہیں علم نہیں۔ ابو یعلی میں حضرت عبد اللہ سے مردی ہے کہ عذاب جہنم کے ساتھ ہی زہر یہ سانپوں کا ذہنا بڑھ جائے گا جو اتنے بڑے بڑے ہوں گے جتنے بڑے کھجور کے درخت ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ عرش تلے سے پانچ نہریں آتی ہیں جن سے جہنمیوں کو دن رات عذاب ہو گا۔

**وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجَئْنَا
بِكُلِّ شَهِيدًا عَلَى هُولَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ
شَّيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ هُنَّ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظِلُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ هُنَّ**

جس دن ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور ہم نے تجھے پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا شانی بیان ہے اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے ॥ اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قربات داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ آپ تمہیں تصھیح کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کر دو ॥

کتاب میں: ☆☆ (آیت: ۸۹) اللہ تعالیٰ اپنے محترم رسول ﷺ سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو اور اس دن جو تیری شرافت و کرامت ہونے والی ہے، اس کا بھی ذکر کر۔ یہ آیت بھی وسیعی ہی ہے جیسی سورہ نساء کے شروع کی آیت فکیف إذا جتنا منْ كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنَا بِكَ عَلَى هُوَلَاءِ شَهِيدًا لِيَعْنِي کیوں کفر گز رے گی جب کہ ہم ہرامت میں سے گواہ لا میں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنانے کر کھڑا کریں گے۔ حضور ﷺ نے ایک بار حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے سورہ نساء پر ہوائی۔ جب وہ اس آیت تک پہنچتا تو آپ نے فرمایا بس کڑ کافی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس وقت آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ پھر فرماتا ہے، اپنی اس اتاری ہوئی کتاب میں تیرے سامنے سب کچھ بیان فرمادیا ہے، ہر علم اور ہر شے اس قرآن میں ہے ہر حلال حرام ہر ایک نافع علم ہر بھلائی، گذشتہ کی خبریں، آئندہ کے واقعات، دین و دنیا، معاش، معاد، سب کے ضروری احکام و احوال اس میں موجود ہیں۔ یہ دلوں کی ہدایت ہے یہ رحمت ہے یہ بشارت ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت رسول ﷺ کو ملا کر ہر چیز کا بیان ہے۔ اس آیت کو اود پر والی آیت سے غالباً یہ تعلق ہے کہ جس نے تجھ پر اس کتاب کی تبلیغ فرض کی ہے اور اسے نازل فرمایا ہے وہ قیامت کے دن تجھ سے اس کی بابت سوال کرنے والا ہے جیسے فرمان ہے کہ امتوں اور رسولوں سے سب سے سوال ہو گا۔ واللہ ہم سب سے ان کے اعمال کی باز پرس کریں گے۔ رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال ہو گا کہ تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں کے، ہمیں کوئی علم نہیں تو علام الغیوب ہے۔ اور آیت میں ہے ان الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَيْهِ مَعَادٍ لِيَعْنِي جس نے تجھ پر تبلیغ قرآن فرض کی ہے وہ تجھے قیامت کے دن اپنے پاس لوٹا کر اپنے سونپے ہوئے فریضے کی بابت تجھے سے پرش کرنے والا ہے۔ یہ ایک قول بھی اس آیت کی تفسیر میں ہے اور ہے بھی معقول اور عمدہ۔

برا بر کا بدلہ: ☆☆ (آیت: ۹۰) اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور سلوک و احسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ گوبدلہ لینا بھی جائز ہے جیسے آیت وَ إِنْ عَاقِبَتْمُ الْخُلُجَ میں فرمایا کہ اگر بدل لے سکو تو برا بر کا بدلہ لو لیکن اگر صبر و برداشت کر لو تو کیا ہی کہنا۔ یہ بڑی مردگانی کی بات ہے اور آیت میں فرمایا اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ ایک اور آیت میں ہے زخموں کا قصاص ہے لیکن جو درگز رکر جائے اس کے گناہوں کی معافی ہے پس عدل تو فرض، احسان نفل اور کلمہ توحید کی شہادت بھی عدل ہے۔ ظاہر و باطن کی پاکیزگی بھی عدل ہے اور احسان یہ ہے کہ باطن کی صفائی ظاہر سے بھی زیادہ ہو۔ اور خطا اور منکر یہ ہے کہ باطن میں کھوٹ ہو اور ظاہر میں بناوٹ ہو۔ وہ صدر حسینی کا بھی حکم دیتا ہے۔ جیسے صاف لفظوں میں ارشاد ہے وَ اَتِ ذَالْقُرْبَى حَقَّهُ الْخُلُجَ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو اور بے جا خرچ نہ کرو۔ محمرات سے وہ تمہیں روکتا ہے، برا بیوں سے منع کرتا ہے، ظاہری باطنی تمام برائیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی گناہ ظلم و زیادتی اور قطع حرجی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلدی ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں بھی سخت پکڑ ہو۔ اللہ کے یہ احکام اور یہ نواعی تہماری نصیحت کے لئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سارے قرآن کی جامع تر آیت سورہ جمل میں یہ آیت ہے۔ قادة فرماتے ہیں، جو اچھی عادتیں ہیں، ان کا حکم قرآن نے دیا ہے اور جو بری خصلتیں لوگوں میں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے بد خلقی اور برائی سے اس نے ممانعت کر دی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بہترین اخلاق اللہ کو پسند ہیں اور بد خلقی کو وہ مکروہ رکھتا ہے۔

ائٹم بن صنفی کو جب رسول اللہ ﷺ کی بابت اطلاع ہوئی تو اس نے خدمت نبوی میں حاضر ہونے کی خنان لی لیکن اس کی قوم اس کے سر ہو گئی اور اسے روک لیا۔ اس نے کہا، اچھا مجھ نہیں جانے دیتے تو قاصد لا و جنہیں میں وہاں بھیجو۔ دو شخص اس خدمت کی انجام دی کے لئے تیار ہوئے۔ یہاں آ کر انہوں نے کہا کہ ہم ایٹم بن صنفی کے قاصد ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں (علیہ السلام) اور دوسرا سے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا

رسول پھر آپ نے یہی آیت انہیں پڑھنائی انہوں نے کہا وہ بارہ پڑھئے۔ آپ نے پھر پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لی پھر واپس جا کر ائمہ کو خبر دی اور کہا اپنے نسب پر اس نے کوئی فخر نہیں کیا۔ صرف اپنا اور اپنے والد کا نام بتا دیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ بڑے نسب والے مصر میں علی خاندان کے ہیں اور پھر یہ کلمات ہمیں تعلیم فرمائے جو آپ کی زبانی ہم نے نہیں۔ یہ سن کر ائمہ نے کہا وہ تو بڑی اچھی اور اعلیٰ باتیں سکھاتے ہیں اور بربی اور سفلی پاتوں سے روکتے ہیں۔ میرے قبیلے کے لوگوں میں اسلام کی طرف سبقت کروتا کہ تم دوسروں پر سرداری کرو اور دوسروں کے ہاتھوں میں دیں بن کر نہ رہ جاؤ۔

اس آیت کے شان نزول میں ایک حسن حدیث مسند امام احمد میں وارد ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنی انگنانی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عثمان بن مظعون آپ کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا۔ بیٹھتے نہیں ہو؛ وہ بیٹھ گیا، آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ حضور ﷺ نے دفتہ اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھائیں کچھ دریا اور پہاڑ کو دیکھتے رہے پھر نکالیں آہستہ آہستہ پنچی کیس اور اپنی دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے اور اسی طرف آپ نے رخ بھی کر لیا اور اس طرح سرہلانے لگے گویا کسی سے کچھ سمجھا رہے ہیں اور کوئی آپ سے کچھ کہرا رہا ہے۔ تھوڑی دریتک بھی حالت طاری رہی۔ پھر آپ نے نگاہیں اونچی کرنی شروع کیں یہاں تک کہ آسمان تک آپ کی نگاہیں پہنچیں۔ پھر آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اسی پہلی بیٹھک پر عثمان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے صبر نہ ہو سکا۔ پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کمی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوا لیکن آج جیسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا، آپ نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ کہ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی پھر پنچی کر لی اور اپنے دائیں طرف دیکھنے لگے اور اسی طرف گھوم کر بیٹھ گئے۔ مجھے چھوڑ دیا پھر اس طرح سرہلانے لگے جیسے کوئی آپ سے کچھ کہرا رہا ہو۔ اور آپ اسے اچھی طرح سن سمجھ رہے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے یہ سب کچھ دیکھا، اس نے کہا، برادر دیکھتا ہی رہا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس اللہ کا نازل کردہ فرشتہ وہی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا اللہ کا بھیجا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں اللہ کا بھیجا ہوا۔ پوچھا پھر اس نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے یہی آیت پڑھنائی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اور حضور ﷺ کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ ایک اور روایت میں حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا جو آپ نے اپنی نگاہیں اور پوکا اٹھائیں اور فرمایا جریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو اس سورت کی اس جگہ رکھوں یہ روایت بھی صحیح ہے واللہ اعلم۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقِضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا
تَتَخَذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ
أَرْبُلٌ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُو كُمُ اللَّهُ بِهِ وَ لَيْبَيْنَ لَكُمْ يَوْمٌ
الْقِيمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

اور پورا کرواللہ کے عہد کو جب کہ تم آپس میں قول و فرار کرو اور قسموں کو ان کی پیشگی کے بعد تو رہا کہ وہ باوجود یہ کہ تم اللہ کو اپنا اٹھاں میں بھرا چکر ہو، تم جو کچھ کرتے ہوں اللہ

تعالیٰ غنی جان رہا ہے ॥ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاتنے کے بعد ٹکڑے کر کے توڑا لہ کھبرادم اپنی قسموں کو آپس کے کمر کا باعث اس لئے کہ ایک گروہ دوسرا گروہ سے بڑھا چڑھا ہو جائے بات صرف ہیں ہے کہ اس زیادتی سے اللہ تھمیں آزمرا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لئے قیامت کے دن ہر اس چیز کو کھول کر بیان کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہے ॥

عہدو پیان کی حفاظت : ☆☆ (آیت: ۹۱-۹۲) اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عہدو پیان کی حفاظت کریں، قسموں کو پورا کریں توڑیں نہیں۔ قسموں کو نہ توڑنے کی تاکید کی اور آیت میں فرمایا کہ اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ۔ اس سے بھی قسموں کی حفاظت کرنے کی تاکید مقصود ہے۔ اور آیت میں ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے قسموں کی پوری حفاظت کرو۔ پس ان آیتوں میں یہ حکم ہے۔ اور صحیحین کی حدیث میں ہے، آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں، اللہ میں جس چیز پر قسم کھالوں اور پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ تو مندرج بالا آیتوں اور حدیثوں میں کچھ فرق نہ سمجھا جائے۔ وہ قسمیں اور عہدو پیان جو آپس کے معابدے اور وعدے کے طور پر ہوں، ان کا پورا کرنا تو بے شک بے ضروری ہے اور جو قسمیں رغبت دلانے یا روکنے کے لئے زبان سے نکل جائیں وہ بے شک کفارہ دے کر رٹوٹ سکتی ہیں۔ پس اس آیت میں مراد جاہلیت کے زمانے جیسی قسمیں ہیں۔ چنانچہ مند احمد میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، اسلام میں دو جماعتوں کی آپس میں ایک رہنے کی قسم کوئی چیز نہیں۔ ہاں جاہلیت میں ایسی امداد و اعانت کی جو قسمیں آپس میں ہو چکی ہیں، اسلام ان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے جملے کے یہ معنی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں کہ ایک برادری والوں سے عہدو پیان کریں کہ ہم تم ایک ہیں راحت رنج میں شریک ہیں وغیرہ۔ کیونکہ رشتہ اسلام تمام مسلمانوں کو ایک برادری کر دیتا ہے۔ مشرق و مغرب کے مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد و غنوار ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول کریم علیہ افضل لعلیم نے انصار و مهاجرین میں باہم قسمیں اٹھوا ہیں۔ اس سے یہ ممنوع بھائی بندی مراہبیں۔ یہ تو بھائی چارہ تھا جس کی بناء پر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ آخر میں یہ حکم منسون رنج ہو گیا اور رشد قربتی رشتہ داروں سے مخصوص ہو گیا۔ کہتے ہیں اس فرمان الہی سے مطلب ان مسلمانوں کو اسلام پر جمع رہنے کا حکم دیتا ہے جو حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کے احکام کی پابندی کا اقرار کرتے تھے۔ تو انہیں فرماتا ہے کہ ایسی تاکیدی قسم اور پورے عہد کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی جماعت کی کمی اور مشرکوں کی جماعت کی کثرت دیکھ کر تم اسے توڑ دو۔ مند احمد میں ہے کہ جب یزید بن معاویہ کی بیعت لوگ توڑ نے لگے تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گھرانے کے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کی تعریف کر کے اما بعد کہہ کر فرمایا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور رسول ﷺ کی بیعت پر کی ہے اور میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ ہر غدار کے لئے قیامت کے دن ایک جنڈا گاڑا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ غدر ہے۔ فلاں بن فلاں کا اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب سے بڑا اور سب سے برا غدر یہ ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کی بیعت کسی کے ہاتھ پر کر کے پھر توڑ دینا۔ یاد رکھوں میں سے کوئی یہ برکام نہ کرے اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھے درست مجھ میں اور اس میں جدائی ہے۔ مند احمد میں حضور ﷺ فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان بھائی سے کوئی شرط کرے اور اسے پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ مثل اس شخص کے ہے جو اپنے پڑوی کو امن دینے کے بعد بے پناہ چھوڑ دے۔ پھر انہیں دھمکاتا ہے جو عہدو پیان کی حفاظت نہ کریں کہ ان کے اس فعل سے اللہ تعالیٰ علیم و خیر ہے۔ مکہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں فتوحہ سوت کاتنے کے بعد تھیک ٹھاک اور مضبوط ہو جانے کے بعد بے وجہ توڑتا ہو کر پھر ٹکڑے کر دیتی۔ یہ تو اس کی مثال ہے جو عہد کو مضبوط کر کے پھر توڑ دے۔ یہی بات تھیک ہے۔ اب اسے جانے دیجئے کہ واقعہ میں کوئی ایسی عورت تھی بھی یا نہیں جو یہ کرتی ہو۔ یہاں تو صرف

مثال مقصود ہے۔ آنکھاً کے معنی بلکہ نکلے گئے ہے۔ ممکن ہے کہ یہ نَفَضَتْ عَرْلَهَا کا اسم مصدر ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلتا ہو کان کی کبر کا یعنی انکاث نہ ہو۔ جمع ملک کی کی ناکث سے۔ پھر فرماتا ہے کہ قسموں کو کمر و فریب کا ذریعہ بناؤ کہ اپنے سے بڑوں کو اپنی قسموں سے اطمینان دلا دو اور اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کا سکھا کر پھر غداری اور بے ایمانی کر جاؤ۔ ان کی کثرت دیکھ کر جھوٹے وعدے کر کے صلح کرو اور پھر موقع پا کر لڑائی شروع کر دو ایمان کرو۔ پس جب کہ اس حالت میں بھی عہدِ علیٰ حرام کر دی تو اپنی جمیعت اور کثرت کے وقت تو بطور اول حرام ہوئی۔ محمد اللہ ہم سورہ انفال میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لکھا آئے ہیں کہ ان میں اور شاہزادم میں ایک مدت تک کے لئے صلح نامہ ہو گیا تھا۔ اس مدت کے خاتمے کے قریب آپ نے مجاہدین کو سرحد روم کی طرف روانہ کیا کہ وہ سرحد پر پاؤ ڈالیں اور مدت کے ختم ہوتے ہی دھاوا کر دیں تاکہ رومنیوں کو تیاری کا موقعہ نہ ملے۔ جب حضرت عمرو بن عبّاس رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو آپ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اُنہا کبراء معاویہ عہد پورا کر۔ غدر اور بد عہدی سے نجی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنایہ کہ جس قوم سے عہدِ معاہدہ ہو جائے تو جب تک کہ مدتِ صلح ختم نہ ہو جائے کوئی گرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سنت ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شکریوں کو داپس بلوالیا۔ اُبینی سے مراد اکثر ہے۔ اس جملے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دیکھا کر دشمن قوی اور زیادہ ہے، صلح کرنی اور اس صلح کو ذریعہ فریب بنا کر انہیں غافل کر کے چڑھ دوڑے اور یہ بھی مطلب ہے کہ ایک قوم سے معاہدہ کر لیا۔ پھر دیکھا کہ دوسرا قوم ان سے زیادہ قوی ہے اس سے معاملہ کر لیا اور اگلے معاہدے کو توڑ دیا۔ یہ سب منع ہے۔ اس کثرت سے اللہ تمہیں آزماتا ہے یا یہ کہ اپنے اس حکم سے یعنی پاندھی و عده کے حکم سے اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے اور تم میں صحیح فیصلے قیامت کے دن وہ آپ کر دے گا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدل دے گا گانکوں کو نیک بدوں کو بد۔

وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ
وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ لَنْسُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا
تَتَخَذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَنَزَّلَ قَدْمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَ تَذَوَّقُوا السُّوَءَ إِمَّا صَدَدُتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی گروہ بنادیتا لیکن وہ جسے چاہے گراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یقیناً تم جو کچھ کر رہے ہو۔ اس سے باز پس کی جانے والی ہے ۰ تم اپنی قسموں کو آپس کی دغنا بازی کا بہانہ نہ بناؤ۔ پھر تو تمہارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈگا جائیں گے اور تمہیں سخت سزا برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ تم نے راہِ اللہ سے روک دیا اور تمہیں برا اختیت عذاب ہو گا ۰ تم عبدِ اللہ کو تھوڑے سوول کے بد لے نہیں دیا کر دیا اور کھو اللہ کے پاس کی چیز ہی تمہارے لئے بہتر ہے ۰

ایک مذہب و مسلک : ☆☆ (آیت: ۹۳-۹۵) اگر اللہ چاہتا تو دنیا بھر کا ایک ہی مذہب و مسلک ہوتا جیسے فرمایا لو شاء اللہ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً یعنی اللہ کی چاہت ہوئی تو اے لوگوں سب کو وہ ایک ہی گروہ کر دیتا۔ ایک اور آیت میں ہے کہ اگر تیرارب چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ با ایمان ہی ہوتے یعنی ان میں موافق و مخالف ہوتی اور اختلاف و بعض بالکل نہ ہوتا۔ تیرارب قادر ہے

اگر چاہے تو سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دے لیکن یہ تو متفرق ہی رہیں گے مگر جن پر تیرے رب کارحم ہوا سی لئے انہیں پیدا کیا ہے۔ ہدایت و نقلات اسی کے ہاتھ ہے۔ قیامت کے دن وہ حساب لے گا، پوچھ گچھ کرے گا اور چھوٹے ہوئے یہیک و بدکل اعمال کا بدلہ دے گا۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ قسموں کو اور عہدوں پیمان کو مکاری کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ ثابت قدی کے بعد پھسل جاؤ گے۔ جیسے کوئی سیدھی راہ سے بھٹک جائے اور تمہارا یہ کام اور وہ کمی راہ اللہ سے ہست جانے کا سبب ہن جائے گا جس کا بہترین و بال تم پر پڑے گا۔ کیونکہ کفار جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے عہد کر کے توڑ دیا، وعدے کا خلاف کیا تو انہیں دین پر وثوق و اعتماد نہ رہے گا پس وہ اسلام کو قبول کرنے سے رک جائیں گے اور چونکہ ان کے اس رکنے کے باعث تم بخوگے اس لئے تمہیں بڑا عذاب ہو گا اور رخت سزا دی جائے گی۔ اللہ کو پیغام میں رکھ کر جو وعدے کرو، اس کی قسمیں کھا کر جو عہدوں پیمان ہوں انہیں دنیوی لائق سے توڑ دینا یا بدل دینا تم پر حرام ہے گو ساری دنیا حاصل ہو جائے تاہم اس حرمت کے مرتكب نہ بنو۔ کیونکہ دنیا پیغام ہے اللہ کے پاس جو ہے وہی بہتر ہے۔

**مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ
صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِالْحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ۚ مَنْ عَمِلَ
صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْكِمَنَّهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِالْحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ ۚ**

بشر طیکتم میں علم ہوتا ہے تماہرے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی ہے۔ صبر کرنے والوں کو ہم ان کے بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور و عطا فرمائیں گے ۰ جو شخص نیک عمل کر لے مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو با ایمان تو ہم اسے یقیناً نہیات بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں دیں گے ۰

(آیت: ۹۶) اس جزا اور اس ثواب کی امید رکھو۔ جو اللہ کی اس بات پر یقین رکھے اسی کا طالب رہے اور حکم الہی کی پابندی کے ماتحت اپنے وعدوں کی نگہبانی کرے اس کے لئے جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ ساری دنیا سے بہت زیادہ اور بہت بہتر ہے۔ اسے اچھی طرح جان لوتا دافنی سے ایسا نہ کرو کہ ثواب آخرت ضائع ہو جائے بلکہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ سنو دنیا کی نعمتیں زائل ہونے والی ہیں اور آخرت کی نعمتیں لا زوال اور ابدی ہیں۔ مجھے قسم ہے جن لوگوں نے دنیا میں صبر کیا، میں انہیں قیامت کے دن ان کے بہترین اعمال کا نہیات اعلیٰ صلد عطا فرماؤں گا اور انہیں بخش دوں گا۔

کتاب و سنت کے فرماءں بردار: ﴿۹﴾ (آیت: ۹۷) اللہ تبارک و تعالیٰ جمل شاند اپنے ان بندوں سے جو اپنے دل میں اللہ پر، اس کے رسول ﷺ پر ایمان کامل رکھیں اور کتاب و سنت کی تابعداری کے ماتحت نیک اعمال کریں، وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، عمدگی سے ان کی عمر بسر ہو گی خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں، ساتھ ہی انہیں اپنے پاس دار آخرت میں بھی ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں پاک اور حلال روزی، قناعت، خوش نسبی، سعادت، پاکیزگی، عبادات کا لطف، اطاعت کا مزہ، دل کی نہنڈک، سینے کی کشادگی، سب ہی کچھ اللہ کی طرف سے ایماندار نیک عامل کو عطا ہوتی ہے۔ چنانچہ مند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے فلاح حاصل کر لی جو مسلمان ہو گیا اور برا بر سر ابر روزی دیا گیا اور جو ملا

اس پر قناعت نصیب ہوئی اور حدیث میں ہے جسے اسلام کی راہ دکھادی گئی اور جسے پیٹ پالنے کا گلزار میسر ہو گیا اور اللہ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا اس نے نجات پالی (ترمذی)

صحیح مسلم شریف میں ہے - رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ ان کی نیکی کا بدل دنیا میں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی انہیں دیتا ہے ہاں کافرا پی نیکیاں دنیا میں ہی کھالیتا ہے - آخرت کے لئے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی -

فَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۷﴾ **إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَُّونَهُ وَالَّذِينَ**
هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾

۱۷

قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو ○ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں
چلتا ○ ہاں اس کا غلبہ ان پر تو تینا ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں ○

آعوذ کا مقصد: ☆☆ (آیت: ۹۸-۱۰۰) اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کی زبانی اپنے مومن بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے وہ اعوذ پڑھ لیا کریں - یہ حکم فرضیت کے طور پر نہیں - ابن حجر یودغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے - اعوذ کی پوری بحث مع معنی وغیرہ کے ہم اپنی اس تفسیر کے شروع میں لکھا ہے ہیں - فالمحمد للہ - اس حکم کی مصلحت یہ ہے کہ قاری قرآن میں آجھئے غور و فکر سے رک جانے اور شیطانی دسواروں کے آنے سے نجج جائے - اسی لئے جمہور کہتے ہیں کہ قرأت شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھ لیا کرے - کسی کا قول یہ بھی ہے کہ ختم قرأت کے بعد پڑھے - ان کی دلیل یہی آیت ہے لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے اور حدیثوں کی دلالت بھی اسی پر ہے واللہ اعلم - پھر فرماتا ہے کہ ایماندار متولین کو وہ ایسے گناہوں میں پھانس نہیں سکتا جن سے وہ توبہ ہی نہ کریں - اس کی کوئی جگہ ان کے سامنے چل نہیں سکتی یہ مخلص بندے اس کے گھرے کرے سے حفظ و حفظ رہتے ہیں - ہاں جو اس کی اطاعت کریں اس کے کہہ میں آجائیں اسے اپنادوست اور حمایتی ٹھہرا لیں، اسے اللہ کی عبادتوں میں شریک کرنے لگیں ان پر تو یہ چھا جاتا ہے - یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ "ب" کو سببیہ بتائیں یعنی وہ اس کی فرمانبرداری کے باعث اللہ کے ساتھ شرکت کرنے لگ جائیں یہ معنی بھی ہیں کہ وہ اسے اپنے مال میں اور اپنی اولاد میں شریک اللہ ٹھہرا لیں -

وَإِذَا بَدَّلَتِ آيَةً مَكَانَ آيَةً ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾
نَرَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثِيبَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۲۰﴾

جب ہم کسی آیت کی جگہ درسری آیت بدلتی ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ غوب جانتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو توہتان باز ہے بات یہ ہے کہ ان

میں کے اکثر جانتے ہی نہیں ॥ کہہ دے کہ اسے تیرے رب کی طرف سے جریل حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت اور ہدایت عطا فرمائے اور مسلمانوں کی رہنمائی اور بشارت کے لئے ॥

ازلی بد نصیب لوگ: ☆☆ (آیت: ۱۰۱-۱۰۲) مشرکوں کی کم عقلی بے شانی اور بے تلقین کا بیان ہو رہا ہے کہ انہیں ایمان کیسے نصیب ہو؟ یہ تو ازلی بد نصیب ہیں، ناخ منسوخ سے احکام کی تبدیلی دیکھ کر بکنے لگتے ہیں کہ لوصاحب ان کا بہتان کھل گیا۔ اتنا نہیں جانتے کہ قادر مطلق اللہ جو چاہے کرے۔ جوارادہ کرے حکم دے ایک حکم کو اٹھادے دوسرا کو اس کی جگہ رکھ دے۔ جیسے آیت ماننسخ اخْ میں فرمایا ہے۔ پاک روح یعنی حضرت جرجیل علیہ السلام اسے اللہ کی طرف سے حقانیت و صداقت، عدل و انصاف کے ساتھ لے کر تیری جانب آتے ہیں تاکہ ایمان در ثابت قدم ہو جائیں، اب اتر، اماناً، پھر اتر، پھر ماناً، ان کے دل رب کی طرف جھکتے رہیں، تازہ تازہ کلام اللہ سننے رہیں، مسلمانوں کے لئے ہدایت و بشارت ہو جائے، اللہ اور رسول اللہ کے ماننے والے را ہی اقتہ ہو کر خوش ہو جائیں۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الذِّي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھا جاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں، عجمی ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے ॥

سب سے زیادہ منزلت و رفعت والا کلام: ☆☆ (آیت: ۱۰۳) کافروں کی ایک بہتان بازی بیان ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے یہ قرآن ایک انسان سکھاتا ہے۔ قریش کے کسی قبیلے کا ایک عجمی غلام تھا، صفا پہاڑی کے پاس خرید و فروخت کیا کرتا تھا، حضور ﷺ کی بھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور کچھ باتیں کر لیا کرتے تھے، شخص صحیح عربی زبان بولنے پر قادر بھی نہ تھا۔ توئی پھوٹی زبان میں مشکل اپنا مطلب ادا کر لیا کرتا تھا۔ اس افتراء کا جواب جتاب باری دیتا ہے کہ وہ کیا سکھائے گا جو خود بولنا نہیں جانتا، عجمی زبان کا آدمی ہے اور یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے پھر فصاحت و بلاغت والا، کمال و ملاست والا، عمرہ اور اعلیٰ پاکیزہ اور بالا۔ معنی، مطلب، الفاظ و اعات ہیں۔ سب سے نرالائیں اسرائیل کی آسمانی کتابوں سے بھی منزلت اور رفعت والا۔ وقت اور عزت والا۔ تم میں اگر ذرا سی عقل ہوتی تو یوں ہتھی پر چرا غر کھ کر چوری کرنے کو نکلتے، اسیا جھوٹ نہ کہتے جو بیوقوفوں کے ہاں بھی نہ چل سکے۔ سیرت ابن احیا ق میں ہے کہ ایک نہر انی غلام جسے جر کہا جاتا تھا جو بنو حضری قبیلے کے کسی شخص کا غلام تھا، اس کے پاس رسول اللہ ﷺ مردہ کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اس پر مشرکین نے یہ بے پر کی اڑائی کہ یہ قرآن اسی کا سکھایا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام یقیش تھا۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ مکہ شریف میں ایک لوہار تھا جس کا نام بلعام تھا۔ یہ شخص تھا اسے حضور ﷺ نے تعلیم دیتے تھے تو آپ کا اس کے پاس آنا جانا دیکھ کر قریش مشہور کرنے لگے کہ یہی شخص آپ کو کچھ سکھاتا ہے اور آپ اسے کلام اللہ کے نام سے اپنے حلقتے میں سکھاتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے۔ مراد اس سے سلمان فارسی ہیں رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ قول تو نہایت بودا ہے کیونکہ حضرت سلمان تو مدینے میں آپ سے ملے اور یہ آیت مکہ میں اتری ہے۔ عبد اللہ بن مسلم کہتے ہیں۔ ہمارے دو مقامی آدمی روم کے رہنے والے تھے جو اپنی زبان میں اپنی کتاب پڑھتے تھے۔ حضور ﷺ بھی جاتے آتے۔ کبھی ان کے پاس کھڑے ہو کر سن لیا کرتے، اس پر مشرکین نے اڑایا کہ انہی سے

آپ قرآن سیکھتے ہیں، اس پر یہ آیت اتری۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشرکین میں سے ایک شخص تھا جو حج کھانا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اسلام سے مرد ہو گیا اور یہ بات گھڑی۔ اللہ کی لعنت ہواں پر۔

**إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاِيْتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيْهُمُ اللَّهُ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ هُنَّا يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِاِيْتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ هُنَّا**

جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انھیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لئے الناک عذاب ہیں 〇 جھوٹ افرا تو ہی باندھتے ہیں جھیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں 〇

ارادہ نہ ہو تو بات نہیں بنتی: ☆☆ (آیت: ۱۰۲-۱۰۵) جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اللہ کی کتاب نے غفلت کرنے اللہ کی باتوں پر ایمان لانے کا قصد ہی نہ رکھے، ایسے لوگوں کو اللہ بھی دور ڈال دیتا ہے انہیں دین حق کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ آخرت میں خست دردناک عذابوں میں پھنسنے ہیں۔ پھر بیان فرمایا کہ یہ رسول اللہ پر جھوٹ افترا باندھنے والے نہیں یہ کام تو بدترین مخلوق کا ہے جو ملحد و کافر ہوں، ان کا جھوٹ لوگوں میں مشہور ہوتا ہے اور آنحضرت محمد مصطفیٰ ﷺ تو تمام مخلوق سے بہتر و افضل دین دار اللہ شناس، پھر ان کے پچھے ہیں۔ سب سے زیادہ کمال علم و ایمان، عمل و نیکی میں آپ کو حاصل ہے۔ سچائی میں، بھلائی میں، یقین میں، معرفت میں آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ ان کافروں سے ہی پوچھلو۔ یہ بھی آپ کی صداقت کے قائل ہیں۔ آپ کی امانت کے مداح ہیں۔ آپ ان میں محمد امین کے متاز لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ شاہ روم ہرقل نے جب ابوسفیان سے آنحضرت ﷺ کی نسبت بہت سے سوالات کئے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کی طرف نسبت کی ہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا، کبھی نہیں اس پر شاہ نے کہا، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جس نے دنیوی معاملات میں لوگوں کے بارے میں کبھی بھی جھوٹ کی لندگی سے اپنی زبان خراب نہ کی ہوؤہ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے۔

**مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَ قَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌ بِالْأَيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هُنَّا
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ هُنَّا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ
عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعَهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ هُنَّا
لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ هُنَّا**

جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے جو اس کے جس پر جر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو گر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر غضب اللہ ہے۔

اور انہی کے لئے بہت بڑا عذاب ہے ॥ یہ اس لئے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ است نہیں دکھاتا ہے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور یہ لوگ غافل ہیں ॥ کچھ ملک نہیں کہ بھی لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں ॥

ایمان کے بعد کفر پسند لوگ: ☆☆ (آیت: ۱۰۶-۱۰۹) اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کریں، پھر کر انہے ہو جائیں، پھر کفر پر ان کا سیدھا کھل جائے، اس پر اطمینان کر لیں، یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوتے ہیں کہ ایمان کا علم حاصل کر کے پھر اس سے پھر گئے اور انہیں آخرت میں بڑا سخت عذاب ہو گا۔ کیونکہ انہوں نے آخرت بگاڑ کر دنیا کی محنت کی اور صرف دنیا طلبی کی وجہ سے اسلام پر مرتد ہونے کو ترجیح دی۔ پھونکہ ان کے دل ہدایت حق سے خالی تھے، اللہ کی طرف سے ثابت قدی انہیں نہ ملی۔ دلوں پر مہریں لگ گئیں۔ فتح کی کوئی بات سمجھیں نہیں آتی۔ کان اور آنکھیں بھی بے کار ہو گئیں، حق سن سکیں، نہ دیکھ سکیں۔ پس کسی چیز نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور اپنے انعام سے غافل ہو گئے۔ یقیناً ایسے لوگ قیامت کے دن اپنا اور اپنے ہم خیال لوگوں کا نقصان کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت کے درمیان جن لوگوں کا استثناء کیا ہے یعنی وہ جن پر جبر کیا جائے اور ان کے دل ایمان پر چھے ہوئے ہوں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بہ سبب مار پیٹ اور ایڈاؤں کے مجبور ہو کر زبان سے مشرکوں کی موافقت کریں لیکن ان کا دل وہ نہ کہتا ہو بلکہ دل میں اللہ پر اولاً اس کے رسول پر کامل اطمینان کے ساتھ پورا ایمان ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت عمر بن یاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارے میں اتری ہے جب کہ آپ کو مشرکین نے عذاب کرنا شروع کیا جب تک کہ آپ آنحضرت ﷺ کے ساتھ کفر نہ کریں۔ پس بادل ناخواست مجبوراً اور کر اها آپ نے ان کی موافقت کی۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آ کر غدر بیان کرنے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ”شمعی“، قتادہ اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی کہتے ہیں۔

ابن جریر میں ہے کہ مشرکوں نے آپ کو پکڑا اور عذاب دینے شروع کئے یہاں تک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آ کر اس کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے پوچھا تم اپنے دل کا حال کیا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ وہ تو ایمان پر مطمئن ہے، جما ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا! اگر وہ پھر لوٹیں تو تم بھی لوٹنا۔ یعنی میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نے حضور ﷺ کو برا بھلا کہا اور ان کے معبدوں کا ذکر خیر سے کیا پھر آپ کے پاس آ کر اپنایہ دکھ بیان کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ انہوں نے اذیت دینا ختم نہیں کیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہ کہہ لیا اور ان کے معبدوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنادل کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن۔ فرمایا! اگر وہ پھر کریں تو تم بھی پھر کر لینا۔ اسی پر یہ آیت اتری۔

پس علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر جبر و کراہ کیا جائے، اسے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے ان کی موافقت کر لے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقعہ پر بھی ان کی نہ مانے جیسے کہ حضرت بالا رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا کہ مشرکوں کی ایک نہ مانی حالانکہ وہ انہیں بدترین تکلیفیں دیتے تھے یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں پوری تیز دھوپ میں آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری وزنی پھر رکھ دیا کہ اب بھی شرک کرو تو نجات پاؤ لیکن آپ نے پھر بھی ان کی نہ مانی۔ صاف انکار کر دیا اور اللہ کی توحید احمد کے لفظ سے بیان فرماتے رہے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ ”واللہ اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں چھپنے والا کوئی لفظ میرے علم میں ہوتا تو میں وہی کہتا“، اللہ ان سے راضی رہے اور انہیں بھی ہمیشہ راضی رکھے۔ اسی طرح حضرت خیب بن زیاد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق ہے کہ جب ان سے مسیلمہ کہذا بُنے کہا کہ کیا تو حضرت محمد ﷺ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا میرے رسول اللہ ہونے کی بھی گواہی دیتا

ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نہیں سنتا۔ اس پر اس جھوٹے مدعاً بیوت نے ان کے جنم کے ایک عضو کے کاث ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر یہی سوال جواب ہوا۔ وہ عضو جسم کٹ گیا۔ یونہی ہوتا رہا لیکن آپ آخوند تک اسی پر قائم رہے، اللہ آپ سے خوش ہوا رہ آپ کو بھی خوش رکھے۔

مند احمد میں ہے کہ جو چند لوگ مرتد ہو گئے تھے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلوادیا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا میں تو انہیں آگ میں نہ جلاتا اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم عذاب نہ کرو۔ ہاں بے شک میں انہیں قتل کرادیتا۔ اس لئے کہ فرمان رسول ﷺ ہے کہ جو اپنے دین کو بدلتے اسے قتل کر دو۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابن عباس کی ماں پر افسوس۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وارد کیا ہے۔

مند میں ہے کہ حضرت ابوالموی اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس یعنی میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے، پوچھا یہ کیا؟ جواب ملا کہ یہ ایک یہودی تھا۔ پھر مسلمان ہو گیا۔ اب پھر یہودی ہو گیا ہے۔ ہم تقریباً دو ماہ سے اسے اسلام پر لانے کی کوشش میں ہیں ہیں تو آپ نے فرمایا، واللہ میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو۔ یہی فیصلہ ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا کہ جو اپنے دین سے لوٹ جائے اسے قتل کر دیا فرمایا جو اپنے دین کو بدلتے دے سیہ واقعہ صحیحین میں بھی ہے لیکن الفاظ اور ہیں۔ پس افضل واولیٰ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم اور ثابت تدم رہے گو اسے قتل بھی کر دیا جائے۔

چنانچہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ بن حذاقؓ ہی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں لائے ہیں کہ آپ کو روی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ۔ میں تمہیں اپنے راج پات میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھکنے کے برا بر بھی دین محمد سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا، پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بھکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم جیہد نا شروع کیا، پار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخ بادشاہ نے کہا، اسے سولی سے اتنا لو پھر حکم دیا کہ پیش کی دیگ یا پیش کی بنی ہوئی گاے خوب تپا کر آگ بنا کر لائی جائے۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اس میں ڈال دو۔

اسی وقت حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین اسی وقت چہرہ ہو کر رہ گئے۔ گوشت پوست جل گیا۔ ہڈیاں چمکنے لگیں۔ رضی اللہ عنہ۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھا ہے، ہماری مان لو اور ہمارا نہ ہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں جو خنی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لئے جو خنی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ۔ انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس لئے کہ اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات پلٹ گئے ہیں۔ میر حکم مان لے گا اور میر انہب قبول کر کے میر ادام بن کر میری سلطنت کا سما جبھی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور یہ خیال محض بے سود نکلا۔ حضرت عبد اللہ بن حذاق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان

ہے جسے راہ اللہ میں اس عذاب کے ساتھ میں قریان کر رہا ہوئ کاش کہ میرے روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانیں راہ اللہ میں اسی طرح ایک کر کے فدا کرتا۔ بعض رواتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا، کھانا پینا بند دیا، کئی دن کے بعد شراب اور خزیر کا گوشت بھیجا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلوای بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لئے حلال تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھے جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقعہ دینا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا، اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اوزنام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا۔ اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کا ما تھا جو ہے اور میں ابتداء کرتا ہوں۔ یہ فرمکر پہلے آپ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ أَعْدِ مَا فَتَنُوا ثُمَّ
جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ أَنْ يَعِدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نُفُسٍ تُجَدِّلُ عَنْ نُفُسِهَا وَتُؤْفَى كُلُّ نُفُسٍ مَا
عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ
آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَآذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ

جن لوگوں نے فتوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا ہے تک تیرا پروردگار ان بالتوں کے بعد انہیں بخشتے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے ۰ جس دن ہر شخص اپنی ذات کے لئے لوتا چکڑتا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کئے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقہ ظلم نہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سنتی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے اسن وطنیان سے تھی۔ اس کی روزی اس کے پاس با فراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا جامد پہنادیا جو بدلہ تھا ان کے کئے اعمال کا ۰

صبر و استقامت: ﴿۱۱۰-۱۱۱﴾ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو یہ جا پنی کمزوری اور مسکینی کے مشرکین کے ظلم کے شکار تھے اور ہر وقت ستائے جاتے تھے۔ آخر انہوں نے ہجرت کی۔ مال، اولاد ملک وطن چھوڑ کر راہ اللہ میں چل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی جماعت میں مل کر پھر جہاد کے لئے نکل پڑے اور صبر و استقامت سے اللہ کے کلمے کی بلندی میں مشغول ہو گئے، انہیں اللہ تعالیٰ ان کا مال یعنی قبولیت فتنہ کے بعد بھی بخششے والا اور ان پر مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بروز قیامت ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں لگا ہو گا، کوئی نہ ہو گا جو اپنی مال یا بیاپ یا بھائی یا بیوی کی طرف سے کچھ کہہ سن سکے۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو گا۔ نہ ثواب کھٹے نہ گناہ بڑھے۔ اللہ ظلم سے پاک ہے۔

اللہ کی عظیم نعمت بعثت نبوی ہے: ☆☆ (آیت: ۱۱۲) اس سے مراد اہل مکہ ہیں۔ یہ امن و اطمینان میں تھے۔ آس پاس لڑائیاں ہوتیں ہیاں کوئی آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھتا جو یہاں آ جاتا اسکے سمجھا جاتا۔ جیسے قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین سے اچک لئے جائیں، کیا ہم نے انہیں امن و امان کا حرم نہیں دے رکھا جہاں ہماری روزیاں قسم کے بچلوں کی شکل میں ان کے پاس چاروں طرف سے کھنچنی چلی آتی ہیں۔ یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ عمرہ اور گزارے لائق روزی اس شہر کے لوگوں کے پاس ہر طرف سے آرہی تھی لیکن پھر بھی یہ اللہ کی نعمتوں کے مکرر ہے جن میں سب سے اعلیٰ نعمت آنحضرت ﷺ کی بعثت تھی جیسے ارشاد باری ہے الٰم تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرًا لَخَ كیا تو نے انہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو فر سے بدلت دیا اور اپنی قوم کو بلاست کی طرف پہنچا دیا جو جنم ہے جہاں یہ داخل ہوں گے اور جو بری قرار گا ہے۔ ان کی اس سرکشی کی سزا یہیں دو نوشیں دو زحمتوں سے بدلت دی ہیں۔

**وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْذَهُمُ الْعَذَابُ
وَهُمْ ظَلَمُونَ هُنَّ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمُ اللَّهُ حَلَّا طَيِّبَاً
وَأَشْكَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا يَعْبُدُونَ هُنَّ إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَكَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ هُنَّ**

ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا، پھر بھی انہوں نے اسے جھٹالا۔ آخر انھیں عذاب نے آدبو چا۔ وہ تھے ہی گھنگار○ جو کچھ حلال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو○ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سواد مسرے کا نام پاک راجائے حرام میں پھر مگی اگر کوئی شخص بے سر کر دیا جائے تو وہ ظالم ہونے حد سے گزرنے والا ہو تو یقیناً اللہ بخششے والا ہے○

(آیت: ۱۱۳) امن خوف سے اطمینان بھوک اور گھبرائی سے انہوں نے اللہ کے رسول کی نہ مانی۔ آپ کے خلاف کر کس لی تو آپ نے ان کے لئے قحط سالی کی بدوعا کی۔ جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں تھی۔ اس قحط سالی میں انہوں نے اونٹ کے خون میں لائز ہوئے بال تک کھائے۔ امن کے بعد خوف آیا۔ ہر وقت رسول اللہ ﷺ اور آپ کے لئکر سے خوف زدہ رہنے لگے۔ آپ کی دن دنی ترقی اور آپ کے لئکروں کی کثرت کا سنتے اور سبھے جاتے تھے یہاں تک کہ بالآخر اللہ کے غیر ﷺ نے ان کے شہر مکہ پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر کے وہاں قبضہ کر لیا۔ یہ ان کی بد اعمالیوں کا شرہ تھا کیونکہ یہ ظلم و زیادتی پر اڑے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول ﷺ کی مکنی بکرتے رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ نے خود ان میں سے ہی بھیجا تھا، جس احسان کا بیان کا بیان آیت لَقَدْ مَنَ اللَّهُ لَخَ میں فرمایا ہے۔ اور اسی کا بیان آیت فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأْوِلِي الْأَلْبَابِ لَخَ میں ہے اور اسی معنی کی آیت کَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمُ میں ہے تکفرون تک اس طیفے کو بھی نہ بھولئے کہ جیسے کفر کی وجہ سے ان کے بعد خوف آیا اور فرانی کے بعد بھوک آئی، ایمان کی وجہ سے خوف کے بعد امن ملا اور بھوک کے بعد حکومت سرداری امارت اور امامت ملی۔ فوجانہما عظم شانہ۔ سلیمان نبی نیز کہتے ہیں، ہم حضرت حضرة زوجہ مختصرہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ جسے لوٹتے ہوئے آرہے تھے۔ اس وقت مدینہ شریف میں خلیفۃ المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھرے ہوئے تھے۔ مائی صاحبہ اکثر راہ چلتیں سے ان کی بابت دریافت فرمایا کرتی تھیں۔ دوسواروں کو جاتے ہوئے دیکھ کر آدمی بھیجا کہ ان سے خلیفۃ الرسلوں کا حال پوچھو۔

انہوں نے خبر دی کہ افسوس آپ شہید کر دیئے گئے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہی وہ شہید ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے و ضرب اللہ ان عبید اللہ بن مغیرہ کے استاد کا بھی یہی قول ہے۔

حلال و حرام صرف اللہ کی طرف سے ہیں: ☆☆ (آیت: ۱۱۳- ۱۱۵) اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنی دی ہوئی پاک روزی حلال کرتا ہے اور شکر کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس لئے کہ نعمتوں کا داتا وہی ہے، اسی لئے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک اور سا بھی نہیں۔ پھر ان چیزوں کا بیان فرمارتا ہے جو اس نے مسلمانوں پر حرام کر دی ہیں، جس میں ان کے دین کا نقصان بھی ہے اور ان کی دنیا کا نقصان بھی ہے جیسے از خود مر اہوا جانور اور بوقت ذبح کیا جائے۔ لیکن جو شخص ان کے کھانے کی طرف بے بس، لا چار، عاجز محتاج، بے قرار، ہو جائے اور انہیں کھالے تو اللہ بخشنش و رحمت سے کام لینے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں اسی جھیکی آیت گزر چکی ہے اور وہیں اس کی کامل تغیری بھی بیان کر دی ہے اب دوبارہ دہرانے کی حاجت نہیں۔ فالمحمد للہ۔ پھر کافروں کے رویہ سے مسلمانوں کو روک رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے از خود اپنی سمجھ سے حلت و حرمت قائم کر لی ہے، تم نہ کر دا آپس میں طے کر لیا کہ فلاں کے نام سے منسوب جانور حرمت و عزت والا ہے۔ بکیرہ، سائیہ، دصیلہ، حام و غیرہ۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتْكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلٌّ وَهَذَا
حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبُ لَا يُفْلِحُونَ هُنَّ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكُم مِنْ قَبْلٍ
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ هُنَّ إِنَّ رَبَّكَ
لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ه

کی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موث نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لا سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کامیابی سے محروم ہی رہتے ہیں ॥ انھیں بہت تھوڑا ابرتا ملتا ہے اور ان کے لئے ہی دردناک عذاب ہیں ॥ یہود یوس پر جو کچھ ہم نے حرام کیا تھا اسے ہم پہلے ہی سے تجھے سنائچے ہیں ہم نے ان پر ٹلنگنیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر قلم کرتے رہے ॥ جو کوئی جیگات سے برے ٹل کرے پھر تو قبہ کرے اور اصلاح بھی کر لے تو پھر بھی تیرا بلا شک و شہری بخشش کرنے والے اور نہایت ہی مہربان ہے ॥

(آیت: ۱۱۶-۱۱۷) تو فرمان ہے کہ اپنی زبانوں سے جھوٹ موت اللہ کے ذمے الزام رکھ کر آپ حلال حرام نہ گھڑہ الو-اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کسی بدعت کو نکالے جس کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو یا اللہ کے حرام کو حلال کرے یا مباح کو حرام فرار دے اور اپنی رائے اور تشبیہ سے احکام ایجاد کرے۔ لما تصف میں مامصردیہ ہے یعنی تم اپنی زبان سے حلال حرام کا جھوٹ دصف نہ گھڑلو۔ ایسے لوگ دنیا کی فلاج سے، آخرت کی نجات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں گو تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں لیکن مرتے ہی المناک عذابوں کا لقمه بنیں گے۔ پہاں کچھ عیش و عشرت کر لیں، وہاں نے بھی کے ساتھ سخت عذاب پرداشت کرنے پڑیں گے۔ جسے

فرمان الٰہی ہے، اللہ پر حجوم افترا کرنے والے نجات سے محروم ہیں۔ دنیا میں چاہے تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں، پھر ہم ان کے کفر کی وجہ سے انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔

دوسروں سے منسوب ہر چیز حرام ہے: ☆☆ (آیت: ۱۱۸-۱۱۹) اوپر بیان گزرا کہ اس امت پر مردار خون، حُم خزیر اور اللہ کے سوا دوسروں کے نام سے منسوب کردہ چیزیں حرام ہیں۔ پھر جو رخصت اس بارے میں تھی اسے ظاہر فرمایا کہ جو آسانی اس امت پر کی گئی ہے اسے بیان فرمایا۔ یہودیوں پر ان کی شریعت میں جو حرام تھا اور جو تھی اور حرج ان پر تھا، اسے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی حرمت کی چیزوں کو پہلے ہی سے تجھے بتا دیا ہے سورہ انعام کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا كُلُّ ذِي ظُفْرٍ میں ان حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانوروں کو حرام کر دیا تھا اور گائے اور بکری کی چربی کو سوائے اس چربی کے جوان کی پیٹھ پر گلی ہو یا اسٹریوں پر یا ہڈیوں سے ملی ہوئی بدلتھا ان کی سرکشی کا۔ ہم اپنے فرمان میں بالکل پچے ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا ہاں وہ خودنا انصاف تھے۔ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں، حرام کر دیں۔ دوسری وجہ ان کا راہ اللہ سے اور وہ کو رکنا بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس رحم و کرم کی خبر دیتا ہے جو وہ گنہگار مونوں کے ساتھ کرتا ہے کہ اداہ رس نے توبہ کی۔ ادھر رحمت کی گوداں کے لئے پھیل گئی۔ بعض سلف کا قول ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں گناہ سے ہٹ جانے کو اور اصلاح کہتے ہیں اطاعت پر کر کر کس لینے کو۔ پس جو ایسا کرے اس کے گناہ اور اس کی لغوش کے بعد بھی اللہ سے بخش دیتا ہے اور اس پر حرم فرماتا ہے۔

**إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتِنَاتِ اللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ لَهُ شَاكِرًا لِلَّانْعَمَةِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى
صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي
الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ
اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**

بے شک ابراہیم پیشوادا اور اللہ کافر میں بردار اور یک طرف خالص تھا وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اللہ نے اسے اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور اسے راہ راست سمجھا دی تھی۔ ہم نے اسے دنیا میں بھی ہر طرح کی بہتری دی تھی اور نبے شک وہ آخرت میں بھی البتہ نیک کاروں میں ہے۔ پھر ہم نے تیری جانب وہ بھیجی کہ تو ابراہیم حنیف کی پیروی کرتا رہ جو شرکوں میں سے نہ تھا۔

جد الائمه حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہدایت کے امام: ☆☆ (آیت: ۱۴۰-۱۴۳) امام حنیف، والد ائمیاء، خلیل اللہ رسول جل و علا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی ہے اور مشرکوں یہودیوں اور نصرانیوں سے انہیں علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ امت کے معنی امام کے ہیں جن کی اقتداء کی جائے۔ قانت کہتے ہیں اطاعت گذار فرمان بردار کو حنیف کے معنی ہیں شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف آجائے والا۔ اسی لئے فرمایا کہ وہ مشرکوں سے بیزار تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب امة قانتا کے معنی دریافت کئے گئے تو فرمایا، لوگوں کو بھلائی سکھانے والا اور اللہ اور رسول ﷺ کی تمحیٰ کرنے والا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امت کے معنی ہیں، لوگوں کے دین کا مسلم۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت معاذ امام قانتا اور حنیف تھے۔ اس پر کسی نے اپنے دل میں

سوچا کہ عبداللہ غلطی کر گئے۔ ایسے تو قرآن کے مطابق حضرت خلیل الرحمن تھے۔ پھر زبانی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امت فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا، جانتے بھی ہو امت کے کیا معنی؟ اور قانت کے کیا معنی؟ امت کہتے ہیں اسے جو لوگوں کو جملائی سکھائے اور قانت کہتے ہیں اسے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا رہے۔ بے شک حضرت معاذؓ ایسے ہی تھے۔

حضرت مجید برحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تھا امت تھے اور تابع فرمان تھے۔ وہ اپنے زمانہ میں تہما موحد دوں تھے۔ باقی تمام لوگ اس وقت کافر تھے۔ قادوہ فرماتے ہیں وہ ہدایت کے امام تھے اور اللہ کے غلام تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے قدر داں اور شکرگزار تھے اور رب کے تمام احکام کے عامل تھے جیسے خود اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي وَفَى وَهُوَ إِبْرَاهِيمَ جس نے پورا کیا یعنی اللہ کے تمام احکام کو تسلیم کیا۔ اور ان پر عمل بجالا یا۔ اسے اللہ نے مختار اور مصطفیٰ بنالیا۔ جیسے فرمان ہے وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ اُخْرَهُمْ نے پہلے ہی سے ابراہیم کو رشد و ہدایت دے رکھی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔ اسے ہم نے راہ مستقیم کی رہبری کی تھی، صرف ایک اللہ وحدہ لا شرک لہ کی وہ عبادت و اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی پسندیدہ شریعت پر قائم تھے۔ ہم نے انہیں دین و دنیا کی خبر کا جامع بنایا تھا۔ اپنی پاکیزہ زندگی کے تمام ضروری اوصاف حمیدہ ان میں تھے۔ ساتھ ہی آخرت میں بھی نیکوں کے ساتھی اور صلاحیت والے تھے۔ ان کا پاک ذکر دنیا میں بھی باقی رہا اور آخرت میں بڑے عظیم الشان درجے ملے۔ ان کے کمال، ان کی عظمت، ان کی محبت، توحید اور ان کے پاک طریق پر اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ اے خاتم رسول، اے سید الانبیاء تجھے بھی ہمارا حکم ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیم حنفی کی پیروی کر۔ جو شرکوں سے بری الذمہ تھا۔ سورہ النعام میں ارشاد ہے فُلَّ إِنَّنِي هَدَنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اُخْ كہہ دے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی رہبری کی ہے۔ مضبوط اور قائم دین ابراہیم حنفی کی جو شرکوں میں نہ تھا۔

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبِيلُ عَلَى الدِّينِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٥﴾

ہفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذمے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، بات یہ ہے کہ تیراپ ورگا رآپ ہی ان میں ان کے اختلاف کا فصلہ قیامت کے دن کرے گا ۵۰

جمعہ کا دن: ☆☆ (آیت: ۱۲۲) پھر یہودیوں پر انکار ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے۔ ہر امت کے لئے ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر کیا ہے جس میں وہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کی خوشی منائیں۔ اس امت کے لئے وہ دن جمعہ کا دن ہے اس لئے کہ وہ چھٹا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا کمال کیا۔ اور ساری مخلوق پیدا ہو چکی اور اپنے بندوں کو ان کی ضرورت کی اپنی پوری نعمت عطا فرمادی۔ مردوی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی دن بنی اسرائیل کے لئے مقرر فرمایا گیا تھا لیکن وہ اس سے ہٹ کر ہفتے کے دن کو لے بیٹھے یہ سمجھ کر کہ جمعہ کو مخلوق پوری ہو گئی۔ ہفتہ کے دن اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ پس تورات جب اتری اُن پر وہی ہفتے کا دن مقرر ہوا اور انہیں حکم ملا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہیں، ہاں یہ ضرور فرمادیا گیا تھا کہ آنحضرت محمد ﷺ جب بھی آئیں تو وہ سب کے سب کو چھوڑ کر صرف آپ ہی کی اتباع کریں۔ اس بات پر ان سے وعدہ بھی لے لیا تھا۔ پس ہفتے کا دن انہیوں نے خود ہی اپنے لئے چھاننا تھا۔ اور آپ ہی جمہ کو چھوڑ اتھا۔

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانہ تک یہ اسی پر رہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ نے انہیں اتوار کے دن کی طرف دعوت

دی۔ ایک قول ہے کہ آپ نے توراۃ کی شریعت چھوڑی نہ تھی سوائے بعض منسوخ احکام کے اور بفتحتے کے دن کی محافظت آپ نے بھی برابر جاری رکھی۔ جب آپ چڑھائے گئے تو آپ کے بعد قسططینیون پادشاہ کے زمانے میں صرف یہودیوں کی ضم میں آ کر صحرہ سے مشرق جانب کو اپنا قبلہ انہوں نے مقرر کر لیا اور بفتحتے کی وجہے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ حیثیں کی حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، ہم سب سے آخرواں ہیں اور قیامت کے دن سب سے آنگے والے ہیں۔ ہاں انہیں کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی۔ یہ دن بھی اللہ نے ان پر فرض کیا لیکن ان کے اختلاف نے انہیں ہمودیا اور اللہ رب البرزت نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ پس یہ سب لوگ ہمارے پیچھے ہی چیچھے ہیں۔ یہودا ایک دن چیچھے نصاریٰ دو دن۔ آپ فرماتے ہیں، ہم سے پہلے کی امتوں کو اللہ نے اس دن سے محروم کر دیا۔ یہود نے بفتحتے کا دن رکھا، نصاریٰ نے اتوار کا اور جمعہ ہمارا ہوا۔ پس جس طرح دونوں کے اس اعتبار سے وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے پیچھے ہی رہیں گے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے پیچھے ہیں اور قیامت کے اعتبار سے پہلے ہیں یعنی تمام مخلوق میں سب سے پہلے فضیلہ ہمارے ہوں گے۔ (مسلم)

**أَدْعُ إِلَى سَيِّلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوِعْظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالْقِيَّ هَيْ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَيِّلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ هُنَّ**

اپنے رب کی طرف لوگوں کو اللہ کی وحی اور بہترین نصیحت کے ساتھ باتا رہا اور ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کیا کہ یقیناً تیر ارب اپنی راہ سے بیکنے والوں کو بھی خوبی جانتا ہے اور وہ راہ یا فتنہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے ॥

حکمت سے مراد کتاب اللہ اور حدیث رسول ﷺ ہے: ☆☆ (آیت: ۱۲۵) اللہ تعالیٰ رب العالمین اپنے رسول حضرت محمد ﷺ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو راہ اللہ کی طرف بلا کیں۔ حکمت سے مراد بقول امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ ﷺ ہے۔ اور اچھے و عظی سے مراد جس میں ذرا وہ حکمی بھی ہو کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اللہ کے عذابوں سے بچاؤ طلب کریں۔ ہاں یہ بھی خیال رہے کہ اگر کسی سے مناظرے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ نزی اور خوش لفظی سے ہو۔ جیسے فرمان ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالْأَنْتِي هَيْ أَحْسَنُ إِنْ أَهْلَ كِتَابَ سَمِاعَهُمْ جَادَلَهُ كَمَا بَهْتَرِينَ طریقہ ہی بردا کرو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نزی کا حکم ہوا تھا۔ دونوں بھائیوں کو یہ کہہ کر فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا کہ اسے زم بات کہنا تاکہ عبرت حاصل کرے اور ہوشیار ہو جائے۔ گراہ اور ہدایت یا بسب اللہ کے علم میں ہیں، شفیق و سعید سب اس پر واضح ہیں وہاں تکھے جا چکے ہیں اور تمام کاموں کے انجام سے فراغت ہو چکی ہے۔ آپ تو اللہ کی راہ کی دعوت دیتے رہیں لیکن نہ مانے والوں کے پیچھے اپنی جان بلا کت میں نہ ڈالئے۔ آپ ہدایت کے ذمے دار نہیں۔ آپ صرف آگاہ کرنے والے ہیں۔ آپ پر پیغام کا پہنچا دینا فرض ہے۔ حساب ہم آپ لیں گے۔ ہدایت آپ کے بس کی چیز نہیں کہ ہے محبوب بھیں۔ ہدایت عطا کر دیں، لوگوں کی ہدایت کے ذمے دار آپ نہیں۔ یہ اللہ کے قبضے اور اس کے ہاتھ کی چیز ہے۔

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَوْقَبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ
لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ
مَعَ الْأَذْيَانِ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴿١٨﴾

اور اگر بدلو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کرو تو بے ننگ صابروں کے لئے بھی بہتر ہے ۰ تو صبر کر بغیر توفیق اللہ کے تو صبر کرہی نہیں سکتا، تو ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو اور جو کمرہ فریب یہ کرتے رہتے ہیں ان سے ننگ دل نہ ہو ۰ یقین مان کر اللہ تعالیٰ پر بیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے ۰

قصاص اور حصول قصاص: ☆☆ (آیت: ۱۲۶-۱۲۸) قصاص میں اور حق کے حاصل کرنے میں برابری اور انصاف کا حکم ہو رہا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں، اگر کوئی تم سے کوئی چیز لے لے تو تم بھی اس سے اسی جیسی لے لو۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو مشرکوں سے درگزر کرنے کا حکم تھا۔ جب ذرا حیثیت دار لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے بد لے کی رخصت ہو جائے تو ہم بھی ان کتوں سے نہ لیا کریں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ آخر یہ بھی حکم چہاد نے منسوب ہو گئی۔ حضرت عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سورہ محل پوری کے شریف میں اتری ہے مگر اس کی یہ تین آخری آیتیں مدینے شریف میں اتری ہیں جب کہ جنگ احمد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے اور آپ کے اعضاء جسم بھی شہادت کے بعد کاث لئے گئے جس پر رسول اللہ ﷺ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ ان مشرکوں پر غلبہ دے تو میں ان میں سے تین شخصوں کے ہاتھ پاؤں اسی طرح کاٹوں گا۔ مسلمانوں کے کان میں جب اپنے محترم نبی ﷺ کے یہ الفاظ پڑے تو ان کے جوش بہت بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم ان پر غالب آ کر ان کی لاشوں کے وہ نکلوئے نکلوئے کریں گے کہ عربوں نے کبھی ایسا یاد کیا ہی نہ ہو۔ اس پر یہ آیتیں اتریں (سیرت ابن اسحاق) لیکن یہ روایت مرسل ہے اور اس میں ایک راوی ایسا ہے جن کا نام ہی نہیں لیا گیا بہم چھوڑا گیا۔ ہاں دوسری سند سے یہ متصل بھی مردوی ہے۔

بزار میں ہے کہ جب حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے۔ آپ پاس کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، آہ اس سے زیادہ دل دکھانے والا منظر اور کیا ہو گا کہ محترم چچا کی لاش کے نکلوے آنکھوں کے سامنے نکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو جہاں تک میرا علم ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ رشتہ ناتے کے جوڑ نے والے نیکیوں کو لپک کر کرنے والے تھے۔ واللہ دوسرے لوگوں کے دروغم کا خیال نہ ہوتا تو میں تو آپ کے اس جسم کو یونہی چھوڑ دیا یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ درندوں کے پیٹوں میں سے نکالتا اور کوئی ایسا ہی کلمہ فرمایا۔ جب ان مشرکوں نے یہ حرکت کی ہے تو واللہ میں بھی ان میں کے شخصوں کی یہی بری حالت بناوں گا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور یہ آیتیں اتریں تو آپ اپنی قسم کے پورا کرنے سے رک گئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ لیکن سند اس کی بھی کمزور ہے۔ اس کے راوی صاحب بیشمری ہیں جو ائمہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں بلکہ امام جماری رحمۃ اللہ علیہ تو انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔ شعی اور ابن جرجج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان سے نکلا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی کی ہے اور ان کے اعضاء بدن کاٹ دیئے ہیں، واللہ ہم بھی ان سے اس کا پدل لے کر ہی چھوڑیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیتیں

اتاریں۔ مند احمد میں ہے کہ جنگ احمد میں سائٹھ انصاری شہید ہوئے اور چھو مہاجر۔ تو اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کی زبان سے نکل گیا کہ جب ہم ان مشرکوں پر غلبہ پائیں تو ہم بھی ان کے نکلوے کئے بغیر نہ رہیں گے۔ چنانچہ فتحِ مکہ والے دن ایک شخص نے کہا کہ آج کے دن کے بعد قریش پہچانے بھی نہ جائیں گے۔ اسی وقت ندا ہوئی، اللہ کے رسول ﷺ تمام لوگوں کو پناہ دیتے ہیں سوائے فلاں فلاں کے (جن کے نام لے دیے گئے) اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ نبی ﷺ نے اسی وقت فرمایا کہ ہم صبر کرتے ہیں اور بدله نہیں لیتے۔ اس آیت کریمہ کی مثالیں قرآن کریم میں اور بھی بہت سی ہیں۔ اس میں عدل کی مشروعت بیان ہوتی ہے اور افضل طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جیسے آیت وَحَزَرُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِثْلُهَا۔ اخْرُجُ مِنْ كَرْبَلَةَ لَيْنَهُ كَرْبَلَةَ لَيْنَهُ كَإِجَازَتِ دَرَكَ لَأَوْ اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اسی طرح آیت وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ میں بھی زخموں کا بدلہ لینے کی رخصت عطا فرمایا کہ پھر فرمایا ہے کہ جو درگز کر لے اور جو بطور صدقہ معاف کرنے یہ معافی اس کے گناہوں کا فارہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اس آیت میں بھی برابر برادر بدلہ لینے کے جوانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر صبر کر لو تو یہ بہتر ہے۔ پھر صبر کی مزیدتا کیدی کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں۔ یہ ان ہی سے ہی ہو سکتا ہے جن کی مدد پر اللہ ہوا رجنہیں اس کی جانب سے توفیق نصیب ہوئی ہو۔

پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے مخالفین کا غم نہ کھا، ان کی قسمت میں ہی مخالفت لکھو دی گئی ہے نہ ان کے فن فریب سے آزر دہ خاطر ہو۔ اللہ تھجھے کافی ہے وہی تیر امد دگار ہے وہی تھجھے ان سب پر غالب کرنے والا ہے اور ان کی مکاریوں اور چالاکیوں سے بچانے والا ہے۔ ان کی عداوت اور ان کے برے ارادے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

ملائکہ اور مجاہدین: ☆☆ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید ہدایات اور اس کی توفیق ان کے ساتھ ہے جن کے دل اللہ کے ڈر سے اور جن کے اعمال احسان کے جو ہر سے مالا مال ہوں۔ چنانچہ جہاد کے موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی اتاری تھی کہ آئی مَعْكُمْ فَتَبُوَا الَّذِينَ أَمْنُوا مِنْ تَهْمَارَ سَاتِهِمْ ہوں۔ پس تم ایمانداروں کو تباہت قدم رکھو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى تم خوف نہ کھاؤ میں تھمارے ساتھ ہوں۔ دیکھا ستا ہوں۔ غار میں رسول کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا غُمَّ نَرُكُ وَاللَّهُ تَعَالَى همارے ساتھ ہے۔ پس یہ ساتھ تو خاص تھا۔ اور مراد اس سے تائید و نصرت الہی کا ساتھ ہوتا ہے۔ اور عام ساتھ کا بیان آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيَّنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ صییر اور آیت مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلَّا هُوَ رَبُّهُمْ اخْرُجُ آیت وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ اخْرُجُ میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ تھماریا ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور وہ تھمارے اعمال دیکھنے والا ہے اور جو تین شخص کوئی سرگوشی کرنے لگیں، ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے اور پانچ میں چھٹا ہو تو جہاں میں ہوئے ہو، ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں۔ پس ان آئیوں میں ساتھ سے مراد سنند دیکھنے کا ساتھ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں حرام کاموں اور گناہ کے لگے ہوئے ہو، ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں۔ اسی میں ساتھ سے مراد سنند دیکھنے کا ساتھ ہے۔ اسی میں ہو یا ملا و قرآن میں ہو یا تم اور کوئی کام میں ہے اور اس سے کم و بیش میں بھی جہاں وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور تم کسی حال میں ہو یا ملا و قرآن میں ہو یا تم اور کوئی کام میں ہے جس کے نتیجے ہوئے ہوئے ہو تو جو تین شخص کوئی سرگوشی کرنے لگیں، ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے اور پانچ میں چھٹا ہو تو جہاں کاموں کو اللہ کے فرمان پر ترک کر دینا اور احسان کے حقی ہیں پروردگار کی اطاعت و عبادت کو بجالانا۔ جن لوگوں میں یہ دونوں عفتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں، جناب باری ان کی تائید اور مدد فرماتا رہتا ہے۔ ان کے مخالفین اور دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ نہیں ان سب پر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ابن الجائم میں حضرت محمد بن حاطب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو با ایمان پر ہیزگار اور نیک کار ہیں۔

الحمد للہ سورہ محل کی تفسیر ختم ہوئی۔ اور الحمد للہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چودھویں پارے کی تفسیر بھی ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار شکر ہے۔